

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
Salve!	Salvē!		Sei begrüßt!	Hello!	مرحبا بك! / أهلا بك!
	pater	m.	Vater	father	أب / والد
	māter	f.	Mutter	mother	أم / والدة
	filius	m.	Sohn	son	ابن
	filia	f.	Tochter	daughter	ابنة
	avus	m.	Großvater	grandfather	جد
	servus	m.	Sklave	slave	عبد
	serva	f.	Sklavin	slave	عبيدة
	catella	f.	Hündchen	little dog	كلب صغير
	hīc	Adv.	hier	here	هنا
	est		er/sie/es ist; es gibt	he/she/it is; there is	هو... / هي... ؛ يوجد / توجد
	dominus	m.	Herr	master	سيد / سيدي
	dominus	m.	Hausherr	master	رب البيت / المالك
	clāmat		er/sie/es ruft	he/she/it calls	هو ينادي / هي تنادي
	venit		er/sie/es kommt	he/she/it comes	هو يأتي / هي تأتي
	domina	f.	Herrin	mistress	ربة البيت
	labōrat		er/sie/es arbeitet	he/she/it works	هو يعمل / هي تعمل
	lūdit		er/sie/es spielt	he/she/it plays	هو يلعب / هي تلعب
	cantat		er/sie/es singt	he/she/it sings	هو يغني / هي تغني
	et	Konjunktion	und	and	و
	gaudet		er/sie/es freut sich	he/she/it is looking forward to doing something	هو يبتهج / هي تبتهج
	currit		er/sie/es läuft	he/sh/it runs	هو يجرى / هي تجرى
Lektion 1	nam	Konjunktion	denn	for	إن
	hodiē	Adv.	heute	today	اليوم
	familia	familiam f.	Hausgemeinschaft	household/family	أهل البيت / العائلة
	exspectat		er/sie/es erwartet	he/she/it expects	هو يتوقع / هي تتوقع
	subitō	Adv.	plötzlich	suddenly	فجأة
	clāmor	clāmōrem m.	Lärm, Krach, Geschrei	noise	ضوضاء / ضجيج / صخب
	audit		er/sie/es hört (zu)	he/she/it listens	هو يسمع / هي تسمع (ينصت)
	rogat		er/sie/es fragt	he/she/it asks	هو يسأل / هي تسأل
	quid?		was?	what?	ما؟ / ماذا؟
	quaerit		er/sie/es sucht	he/she/it looks for somebody/something	هو يبحث / هي تبحث
	nōn		nicht	not	لنفي (لا / ما / لم / لن / ليس)
	videt		er/sie/es sieht	he/she/it sees	هو يرى / هي ترى
	sed	Konjunktion	aber, sondern	but	لكن / ولكن / بل
	ubi?		wo?	where?	أين؟
	ecce!		sieh(e)!/sieh(e) da!	look!/look there!	انظر! / انظر هناك!
	intrat		er/sie/es betritt	he/she/is enters	هو يدخل / هي تدخل
	tum	Adv.	dann, darauf	then	إذا / ثم
	tum	Adv.	da (zeitlich)	then	إذا
	ibi	Adv.	dort	there	هناك

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	nunc	Adv.	nun, jetzt	now	الآن
	etiam	Konjunktion	auch	also, too	أيضاً / بالمثل
	rīdet		er/sie/es lacht	he/she/it laughs	هو يضحك / هي تضحك
	tenet		er/sie/es hält	he/she/it holds	هو يمسك / هي تمسك
Lektion 2	amāre	amat	lieben, mögen	to love, to like	يحب / يفضل
	soror	sorōrem f.	Schwester	sister	أخت
	respondēre	respondet	antworten	to answer	يرد / يجيب
	iterum	Adv.	wieder	again	مرة أخرى
	cōnspicere	cōnspicit (Pl. cōnspiciunt)	erblicken, sehen	to see	يلمح / يرى
	fugere	fugit (Pl.: fugiunt)	fliehen, meiden	to flee, to avoid	يهرب / يتجنب
	capere	capit (Pl.: capiunt)	fangen, ergreifen	to catch	يمسك / يقبض على
	puer	puerum m.	Kind, Junge	child, boy	طفل / ولد
	puella	puellam f.	Mädchen	girl	بنت
	frāter	frātre m.	Bruder	brother	أخ
	itaque	Adv.	deshalb	therefore	من ثم / لذا / لذلك
	sunt		sie sind	they are	هم / هن ...
	culīna	culīnam f.	Küche	kitchen	مطبخ
	dēbere	dēbet	müssen	must	يجب أن / لازم
	nōn dēbere	nōn dēbet	nicht dürfen	must not	لا يجب / لا يسمح (له)
	cupere	cupit (Pl. cupiunt)	wollen, wünschen, mögen	to want, to wish, to like	يريد / يتمنى / يفضل
	adhūc	Adv.	bis jetzt, noch	until now, still	حتى الآن / مازال
	liberī	liberōs m. Pl.	Kinder	children	أطفال
	vir	virum m.	Mann	man	رجل
	ātrium	ātrium n.	Atrium	atrium	أتريوم / ساحة البيت
	ōtium	ōtium n.	Ruhe	silence	هادئ
	ōtium	ōtium n.	Freizeit	leisure time, free time	وقت الفراغ
	parentēs	parentēs m. Pl.	Eltern	parents	الآباء / أولياء الأمور / الأهل
	peristylīum	peristylīum n.	Peristyl	peristyle	رواق من الأعمدة
	officium	officium n.	Pflicht	duty	واجب / مهمة
	explēre	explet	erfüllen	to fulfil	ينجز / يؤدي / يفي
	Salvēte!		Seid begrüßt!	Hello!	مرحباً بكم! / أهلاً بكم!
	dīcere	dīcit	sagen	to say	يقول
	statim	Adv.	sofort	at once, immediately	على الفور
	incipere	incipit (Pl. incipiunt)	beginnen, anfangen	to begin, to start	يبدأ / يشرع في فعل شيء
	cūr?		warum?	why?	لماذا؟
	semper	Adv.	immer	always	دائماً
	labor	labōrem m.	Mühe, Arbeit	work	عمل / جهد
	placēre	placet	Spaß machen, gefallen	to like	يكون ممتعاً / يرضي / يعجب
	pergere	pergit	etw. weiter tun, fortsetzen	to continue	يستمر في أداء شيء / يكمل
Lektion 3	equus	equum m.	Pferd	horse	حصان
	ego/mē		ich/mich	I/me	أنا / هي (ضمير المتكلم مفرد)

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	tū/tē		du/dich	you/you	أنت / بك (ضمير المخاطب: أنت)
	nōs		wir /uns	we/us	نحن / نا (ضمير المتكلم جمع)
	vōs		ihr/euch	you/you	أنتم / كم ؛ أنتن / كن (ضمير المخاطب جمع)
	lepus	leporem m.	Hase	rabbit	أرنب بري
	canis	canem m.	Hund	dog	كلب
	dēlectāre	dēlectō	erfreuen	to enjoy	ييهج / يسعد
	bōs	bovem m.	Rind, Ochse	cow	بقر / جاموس / ثور
	alere	alō	nähren, ernähren	to feed, to nourish	يغذي / يطعم
	paulō post	Adv.	ein wenig später	a little bit later	بعد قليل
	vīlla	vīllam f.	Landhaus, Landgut	country house, cottage	منزل ريفي / مزرعة
	salūtāre	salūtō	grüßen	to say hello, to greet	يرحب بـ / يسلم على
	iam	Adv.	schon, gleich	already	بالفعل / قريباً
	iam	Adv.	jetzt	now	الآن
	eum/eam		ihn/sie	him/her	هـ / ها (ضمير مفرد مذكر / مؤنث غائب)
	eās/eās		sie (m.Pl.) / sie (f. Pl.)	them	هم / هن (ضمير جمع مذكر / مؤنث غائب)
	uxor	uxōrem f.	Ehefrau	wife	زوجة
	cēna	cēnam f.	Mahlzeit	meal	وجبة
	parāre	parō	vorbereiten, zubereiten	to prepare, to cook	يجهز / يعد / يحضر / يطبخ
	adiuvāre	adiuvō	unterstützen	to support, to help	يساعد / يساعد / يدعم
	in	Präp. + Akk.	in (... hinein)	into	إلى / في / داخل
	īre		gehen	to go	يذهب / يمشي
	īnstruere	īnstruō	anweisen, unterrichten	to instruct, to teach	يرشد / يدرّس / يعلم
	quō?		wohin?	where (to)?	إلى أين؟
	ad	Präp. + Akk.	zu (... hin)	to	إلى
	bene	Adv.	gut	well	حسناً / بخير
	caedere	caedō	töten, schlachten	to kill	يقتل / يذبح
	servāre	servō	retten	to save, to rescue	ينقذ
	certē	Adv.	sicher, gewiss	certainly	بالتأكيد / حتماً
	hortus	hortum m.	Garten	garden	حديقة
	esse	sum, es, est, sumus, estis, sunt	sein	to be	يكون
	igitur	Konjunktion	also	therefore	وبالتالي
Lektion 4	schola	scholam f.	Schule	school	مدرسة
	dūcere	dūcō	führen	to lead	يقود / يوصل / يدل
	vocāre	vocō	rufen	to call	ينادي على
	properāre	properō	eilen, sich beeilen	to hurry	أسرع / يسرع
	magister	magistrum m.	Lehrer	teacher	معلم
	sedēre	sedeō	sitzen	to sit	جلس / يجلس
	cōnsidere	cōnsidō	sich hinsetzen	to sit down	جلس / يجلس
	habēre	habēō	haben, halten	to have	يمالك / يمتلك / يمسك
	-ne?		zeigt an, dass es sich um eine Frage handelt	indicates a question	(تشير إلى سؤال)
	scribere	scribō	schreiben	to write	يكتب

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	discere	discō	lernen	to learn	يُتعلَّم
	num?		denn? etwa?	... is it? really?	فعلًا؟ حقًا؟
	posse	possum, potes, potest, possumus,	können	can, to be able to	يقدِّر على / قادر على / يستطيع
	legere	legō	lesen	to read	قرأ / يقرأ
	mūnus	mūnus n. (Nom. / Akk. Pl.: mūnera)	Aufgabe	task	مهمة / مهام
	tacēre	tacēo	schweigen	to be silent	يصمت / يسكت
	discipulus	discipulum m.	Schüler	pupil	تلميذ
	discipula	discipulam f.	Schülerin	pupil	تلميذة
	monēre	moneō	mahnen, ermahnen	to warn, to admonish	يحذِّر / ينصح / يعاتب
	nōlī, nōlīte	+ Inf.	zeigt an, dass es sich um ein Verbot handelt	indicates that something is not allowed	(تشير إلى تصرفات وأفعال ممنوعة)
	ita	Adv.	so	so, thus	إذا / وبالتالي / هكذا
	posteā	Adv.	danach, später	afterwards, later	بعند / فيما بعد
	-que	Konjunktion	und	and	وَ
	quis?		wer?	who?	من؟
	mōnstrāre	mōnstrō	zeigen	to show	بين / أظهر
	rīdēre	rīdeō + Akk.	lachen, jdn. auslachen	to laugh, to laugh at someone	يضحك / يسخر من شخص
	domum		nach Hause	(back) home	يعود إلى المنزل
	pūnīre	pūnīo	bestrafen	to punish	يعاقب
	nōnne?		etwa nicht? doch wohl?	isn't it? surely?	أليس كذلك؟ بالتأكيد؟
	onus	onus n. (Nom./Akk. Pl.: onera)	Last	burden	عبء / حمل
	portāre	portō	tragen	to carry	يحمل
	docēre	doceō	unterrichten, lehren	to teach	يعلم / يرشد / يدرس
	ergō	Konjunktion	deshalb, also	therefore, thus	من ثم / إذا
Lektion 5	per	Präp. + Akk.	über, durch	across	بواسطة / من خلال
	forum	forum n.	Forum, Marktplatz	forum, market place	منتدى / ساحة / سوق
	Rōmānus	Rōmānus m., Rōmāna f.,	römisch	Roman	روماني
	multī	multī m. Pl., multae f. Pl., multa n. Pl.	viele	many	العديد من
	monumentum	monumentum n.	Denkmal	monument	نصب تذكاري
	statua	statuam f.	Statue	statue	تمثال
	pulcher	pulcher m., pulchra f., pulchrum n.	schön	beautiful	جميل
	māgnus	-a, -um	groß	large, great	كبير / عظيم
	prope	Präp. + Akk.	nahe bei	near	قريب من
	homō	hominem m.	Mensch, Mann	human, man	إنسان / رجل
	accēdere	accēdō	sich nähern, herbeikommen	to approach	يقترِب / يصبح مجاوراً
	īrātus	-a, -um	zornig, wütend	angry, furious	غاضب / مغتاظ
	amīcus	amīcum m.	Freund	friend	صديق
	amīca	amīcam f.	Freundin	friend	صديقة
	praebēre	praebeō	bieten, gewähren	to give, to grant	يقدم / يمنح
	tam	Adv.	so	so	إذا / وبالتالي / هكذا
	accūsāre	accūsō	beschuldigen	to accuse	اتهم / يتهم
	fūr	fūrem m.	Dieb	thief	لص

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	malus	-a, -um	schlecht, böse	bad, evil	سيء / شرير
	aureus	-a, -um	golden	golden	ذهبي
	dōnum	dōnum n.	Geschenk	present, gift	هدية
	reddere	reddō	zurückgeben	to give back	يعيد / يرد / يُرجع
	aut	Konjunktion	oder	or	أو
	mors	mortem f.	Tod	death	موت
	manēre	maneō	erwarten	to expect	ينتظر / يتوقع
	obsecrāre	obsecrō	anflehen	to implore	توسل / يتوسل
	miser	-a, -um	arm, unglücklich	poor, unhappy	فقير / حزين
	profectō	Adv.	tatsächlich	actually	فعلاً / بالفعل / في الحقيقة
	tūtus	-a, -um	sicher	safe, secure	أمن / مأمون
	bonus	-a, -um	gut	good	جيد
	parvus	-a, -um	klein	small	صغير
Lektion 6	Circus Māximus	Circi Māximī m.	Circus Maximus	Circus Maximus	سيرك مكسيموس
	spectātor	spectātōris m.	Zuschauer	spectator	مُشاهد / متفرج
	cūnctī	-ae, -a Pl.	alle	all	كل / الجميع
	agitātor	agitātōris m.	Wagenlenker	charioteer	سائق (العربية)
	praeclārus	-a, -um	ausgezeichnet, berühmt	excellent, famous	ممتاز / مشهور
	tandem	Adv.	schließlich, endlich	finally, at last	أخيراً / في الختام
	tunica	tunicae f.	Tunika	tunic	سترة قصيرة
	meus	-a, -um Poss.-Pron.	mein(e)	my	ي (ضمير ملكية: أنا)
	tuus	-a, -um Poss.-Pron.	dein(e)	your (singular)	ك (ضمير ملكية: أنت)
	noster	-tra, -trum Poss.-Pron.	unser(e)	our	نا (ضمير ملكية: نحن)
	vester	-tra, -tum Poss.-Pron.	euer/eure	your (plural)	كم (ضمير ملكية: أنتم / أنتن)
	suus	-a, -um refl. Poss.-Pron.	sein(e)/ihr(e)	his/her	ه / ها (ضمير ملكية: هو / هي)
	eius	m. / f. nicht refl. Poss.-Pron.	sein(e)/ihr(e)	his/her	هم / هن (ضمير ملكية: هم / هن)
	eōrum/eārum	m. nicht refl. Poss.-Pron.	dessen/deren	their	هم / هن (ضمير ملكية: هم / هن)
	vincere	vincō	siegen, besiegen	to win, to beat	يفوز / ينتصر
	verbum	verbī	Wort	word	كلمة
	nōn iam	Adv.	nicht mehr	no more, no longer	ليس بعد الآن
	signum	signī n.	Zeichen	sign	علامة
	imperātor	imperātōris m.	Kaiser	emperor	إمبراطور
	tuba	tubae n.	Trompete	trumpet	بوق
	canere	canō	ertönen	to sound, can be heard	يرن / يدوي صوته
	dare	dō	geben	to give	يعطي / يمنح
	incitāre	incitō	antreiben, anfeuern	to encourage, to push	يشجع / يحمس
	cēterī	-ae, -a Pl.	die übrigen	the others	المتبقي / الباقون
	gaudium	gaudii n.	Freude	joy	فرحة / بهجة
	surgere	surgō	aufstehen	to rise	يقف / يهض
	inter	Präp. + Akk.	zwischen, unter	among	بين / من ضمن
	praestāre	praestō	sich hervortun, sich auszeichnen, besser sein	to distinguish, to be better	يتميز / يصبح أفضل

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	crēscere	crēscō	wachsen	to grow	نمى / ينمو
	simul	Adv.	gleichzeitig, zugleich	simultaneously, at the same time	معاً / في نفس الوقت
	ferē	Adv.	fast, etwa	almost, nearly	تقريباً / ما يقرب من
	tangere	tangō	berühren	to touch	يلمس / يلامس
	mortuus	-a, -uum	tot	dead	ميت
	sē	Akk.	sich	oneself	بنفسه
	pecūnia	pecūniae f.	Geld	money	نقود / مال
	spectāre	spectō	anschauen, betrachten, sehen	to watch, to look at, to see	يشاهد / ينظر إلى / يرى
	audītor	audītōris m.	Zuhörer	listener, the audience	مستمع
	victor	victōris	Sieger	winner	فائز / منتصر
Lektion 7	cum	Präp. + Abl.	mit, zusammen mit	with, together with	بـ / مع / معاً
	thermae	thermārum f. Pl.	Thermen	thermal baths	حمامات
	primum	Adv.	zunächst, zuerst	firstly, at first	أولاً / في البداية
	in	Präp. + Abl.	in, an, auf, bei	in, at, on, by	في / إلى / على / بواسطة
	toga	togae f.	Toga	toga	توجة / توغا / زي روماني حول الجسم
	vestis	vestis f.	Kleidung	clothes, clothing	ملابس
	dēpōnere	dēpōnō	ablegen	to take off	يخلع / يفصل
	saepe	Adv.	oft	often	غالباً
	ē, ex	Präp. + Abl.	aus (... heraus), von	out of, from	من / خارج من
	īre	eō, īs, it, īmus, ītis, eunt	gehen	to go	يذهب / يمشي
	septimus	-a, -um	der siebte	the seventh	السابع
	hōra	hōrae f.	Stunde	hour	ساعة
	autem	Konjunktion	aber	but	لكن
	silentium	silentiī n.	Stille, Schweigen	silence	هدوء / صمت
	iūcundus	-a, -um	erfreulich, angenehm	nice, pleasant	سار / مبهج / مقبول
	paucī	-ae, -a Pl.	wenige, nur wenige	few, only a few	قليل / فقط القليل
	aqua	aquae f.	Wasser	water	ماء
	nihil	Pron.	nichts	nothing	لا شيء
	cōgitāre	cōgitō	denken	to think	فكر / يفكر
	at	Konjunktion	aber	but	لكن
	vōx	vōcis f.	Stimme	voice	صوت
	excitāre	excitō	aufschrecken, aufwecken	to startle, to wake (up)	يفزع / يوقظ
	patrōnus	patrōnī m.	Schutzherr, Patron	protector, patron	حامي / راعي
	sermō	sermōnis m.	Gespräch	conversation	محادثة
	cōnsilium	cōnsiliī n.	Rat, Beratung	advice	نصيحة / مشورة
	occupātus	-a, -um	beschäftigt	busy	مشغول
	molestus	-a, -um	lästig, unangenehm	annoying, unpleasant	مزعج / بغيض / غير حميد
	sēcum		bei sich	with oneself	بنفسه
	aestās	aestātis f.	Sommer	summer	صيف
	errāre	errō	irren, sich irren	to be mistaken/wrong	أخطأ / يخطأ
	longē	Adv.	weit	far	بعيد

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	ā, ab	Präp. + Abl.	von	from	من
Lektion 8	secūtor	secūtōris m.	Verfolger (ein bestimmter Gladiator)	chaser (a class of gladiator)	مُطارِد (فئة من المصارعين)
	ille	ille m., illa f., illud n. Dem.-Pron.	jener, der dort	that, that one	ذلك / ذلك الشخص
	porta	portae f.	Tor, Pforte	door, gate	باب / بوابة
	rētiārius	rētiārīi m.	Netzkämpfer (ein bestimmter Gladiator)	net fighter (a class of gladiator)	مقاتِل (فئة من المصارعين)
	arēna	arēnae f.	Arena (Kampfplatz im Amphitheater)	arena (ring in an amphitheatre)	حلبة (ساحة القتال في المسرح الروماني)
	hic	hic m., haec f., hoc n. Dem.-Pron.	dieser, der hier	this, this one	هذا / هذا الشخص
	gladiātor	gladiātōris m.	Gladiator	gladiator	مصارع
	īgnōtus	-a, -um	unbekannt	unknown	مجهول / غير معروف
	valdē	Adv.	sehr	very	جداً
	arma	armōrum n. Pl.	Waffen	weapons	أسلحة
	gladius	gladiī m.	Schwert	sword	سيف
	pūgnāre	pūgnō	kämpfen	to fight	يحارب / يقاتل
	petere	petō	angreifen, aufsuchen, fordern	to attack, demand	يهاجم / يبحث عن / يطلب
	nōmen	nōminis n.	Name	name	اسم
	dēfendere	dēfendō	verteidigen	to defend	يدافع عن
	atque	Konjunktion	und	and	وَ
	cadere	cadō	fallen	to fall	يقع / يسقط / ينهزم
	humī		auf dem Boden	on the ground	على الأرض
	iacēre	iacēo	liegen	to lie	يرقد / يتمدد
	rūrsus	Adv.	wieder, von neuem	again	مرة أخرى
	iactāre	iactō	werfen, schleudern	to throw	يرمي / يقذف
	in	Präp. + Akk.	in (... hinein), gegen	into, against	داخل / ضد / مقابل
	intendere	intendō	(gegen jdn.) richten	to direct against someone	يوجه (صوب شخص ما)
	neque	Konjunktion	und nicht	and not	و لا / و ليس
	pūgna	pūgnae f.	Kampf	fight	صراع / معركة / قتال
	iūdicium	iūdicīi n.	Urteil, Meinung	judgement, opinion	حكم / قرار / رأي
	aspicere	aspiciō	ansehen	to look at	ينظر إلى
	aliī	-ae, -a Pl.	andere	others	آخرون
	mittere	mittō	schicken, wegschicken	to send, to send away	يرسل / يرسل بعيداً
	vīvere	vīvō	leben	to live	عاش / يعيش
Lektion 9	pārēre	pārēo	gehorschen	to obey	أطاع / يطيع
	iānuā	iānuae f.	Tür	door	باب
	sinere	sinō	lassen, zulassen	to let, to allow	يترك / يسمح / يأذن / يصرح
	intrāre	intrō	betreten, eintreten	to enter	دخل / يدخل
	aperīre	aperiō	öffnen	to open	فتح / يفتح
	cēnsēre	cēnsēo	denken, meinen	to think, to mean	يفكر / يعني
	rūrī		auf dem Land	in the countryside	في الريف
	abīre	abeō	weggehen, verschwinden	to leave, to disappear	يغادر / يختفي
	cēdere	cēdō	gehen, zurückweichen	to go (away)	يذهب / ينسحب
	improbis	-a, -um	schlecht, böse	bad, evil	سيء / شرير

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	adesse	adsum	da sein, anwesend sein	to be there, to be present	يكون هناك / يكون حاضراً
	fortūnae	fortūnārum f. Pl.	Vermögen, Reichtümer	fortune, riches	ثروة / ثراء / غنى
	perdere	perdō	verschwenden, vergeuden	to waste	يضيع / يهدر / يبدد
	nocēre	noceō	schaden	to damage	يضر / يؤذي / يتلف
	studēre	studeō	sich bemühen	to try hard	يبذل ما بوسعه
	bibere	bibō	trinken	to drink	شرب / يشرب
	licet		es ist erlaubt	it is allowed	مصرح به
	corrumpere	corrumpō	verderben	to spoil	يفسد / يتلف / يدلل
	enim	Konjunktion	nämlich	namely	أي
	convīvium	convīvī n.	Gastmahl, Festessen	banquet, feast	وليمة / حفلة
	īnstituere	īnstituō	veranstalten, ausrichten	to organise	ينظم / يعد
	cūrāre	cūrō	sich kümmern	to take care of	يرعى / يهتم ب / يعتني ب
	dē	Präp. + Abl.	um, über	of, about	عن / حول
	vīta	vītae f.	Leben	life	حياة
	modo	Adv.	bloß, nur	just, only	فقط
	agere	agō	handeln, tun	to act, to do	يتصرف / يفعل
	poena	poenae f.	Strafe	punishment	عقاب / عقوبة
	īnstāre	īnstō	bevorstehen, drohen	to await, to threaten	يقترب من / ينتظر / يهدد
Lektion 10	ascendere	ascendō, ascendī	besteigen, hinaufsteigen	to ascend, to climb up	يصعد / يتسلق
	templum	templī n.	Tempel	temple	معبد
	Iuppiter	Iovis m.	Jupiter	Jupiter	يوبيتر
	dum	Konjunktion	während	while	خلال
	deus	deī m.	Gott	god	إله / رب
	dea	deae f.	Göttin	goddess	إلهة / ربة
	nūper	Adv.	neulich	recently	مؤخراً
	audīre	audiō, audīvī	hören, zuhören	to hear, to listen	يسمع / ينصت
	Iūnō	Iūnōnis f.	Juno	Juno	يونو
	scrībere	scrībō, scrīpsī	schreiben	to write	يكتب
	fābula	fābulae f.	Sage, Erzählung	legend, tale	قصة رمزية / رواية / قصة
	legere	legō, lēgī	lesen	to read	قرأ / يقرأ
	nārrāre	nārrō, nārrāvī	erzählen	to tell	يخبر / يحكي
	quondam	Adv.	einst	once, long ago	فيما سبق / منذ وقت طويل
	Gallus	-a, -um	gallisch	Gallic	غلي (بلاد الغال، فرنسا حالياً)
	Gallus	Gallī m.	der Gallier	the Gaul	غلي (بلاد الغال، فرنسا حالياً)
	Rōma	Rōmae f.	Rom	Rome	روما
	urbs	urbis f. (Gen. Pl.: urbium)	Stadt	city, town	مدينة
	petere	petō, petīvī	angreifen, aufsuchen, fordern	to attack, to demand	يهاجم / يبحث عن / يطلب
	capere	capīo, cēpi	fangen, ergreifen, erobern	to catch, to capture, to conquer	يمسك / يقبض على / يقهر / ينتصر على
	cupere	cupiō, cupīvī	wünschen, mögen, wollen	to wish, to like, to want	يتمنى / يفضل / يريد
	Rōmānus	-a, -um	römisch	Roman	روماني
	Rōmānus	Rōmānī m.	der Römer	the Roman	روماني

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	fēmina	fēminae f.	Frau	woman	إمرأة
	arx	arcis f. (Gen. Pl.: arcium)	Festung	fortress	قلعة / حصن
	arx	arcis f. (Gen. Pl.: arcium)	Anhöhe	hill	هضبة
	fugere	fugiō, fūgī	fliehen, meiden	to flee, to avoid	يهرب / يتجنب
	obsidēre	obsideō, obsēdī	belagern	to besiege	حاصر / يحاصر
	mīles	mīlitis m.	Soldat	soldier	جندي
	famēs	famis f.	Hunger	hunger	جوع
	tamen	Konjunktion	dennoch, trotzdem	still, nevertheless	مازال / على الرغم من ذلك
	abstinēre	abstinēō, abstinuī	fernhalten	to keep away	يبعد عن / يبقيه بعيدا عنه
	quia	Konjunktion	weil	because	لأن
	sacer	sacra, sacrum	heilig	holy, sacred	مقدس
	forte	Adv.	zufällig	by chance	بالصدفة
	saxum	saxī n.	Fels	rock	صخرة
	cōnspicere	cōnspiciō, cōnspēxī	erblicken, sehen	to glimpse, to see	يلمح / يرى
	nox	noctis f. (Gen. Pl.: noctium)	Nacht	night	ليلة / ليل
	neque ... neque		weder ... noch	neither ... nor	لا هذا ولا ذاك / لا ... ولا
	cūstōs	cūstōdis m.	Wächter	guardian, watchman	الحارس
	animadvertere	animadvertō, animadvertī	merken, bemerken	to notice	يلاحظ
	excitāre	excitō, excitāvī	aufschrecken, aufwecken	to startle, to wake (up)	يفزع / يوقظ
	intrāre	intrō, intrāvī	betreten, eintreten	to enter	دخل / يدخل
	p̄rimus	-a, -um	der erste	the first	الأول
	dē	dē + Abl.	1. um, über 2. von ... herab	1. about 2. down from	1- عن / حول ؛ 2- ينحدر من
	iactāre	iactō, iactāvī	werfen, schleudern	to throw, to hurl	يرمي / يقذف
	venīre	veniō, vēnī	kommen	to come	يأتي
	adiuvāre	adiuvō, adiuvī	unterstützen	to support, to help	يساعد / يساعد / يدعم
	servāre	servō, servāvī	retten	to save, to rescue	ينقذ
	ad	Präp. + Akk.	1. zu (... hin) 2. bei	1. towards 2. at	1- تجاه / إلى ؛ 2- في / عند
	sacrum	sacrī n.	Opfer	sacrifice	قربان / ضحية / تضحية
	facere	facio, fēcī	machen, tun	to make, to do	يصنع / يعمل
	dēbere	dēbeō, dēbuī	müssen	must, to have to	يجب أن / لازم
	dēfendere	dēfendō, dēfendī	verteidigen	to defend	يدافع عن
	pūgnāre	pūgnō, pūgnāvī	kämpfen	to fight	يحارب / يقاتل
	dīcere	dīcō, dīxī	sagen	to say	يقول
	vidēre	videō, vīdī	sehen	to see	يرى
Lektion 11	Trōiānus	-a, -um	trojanisch	Trojan	طروادي (متعلق ب طروادة)
	Trōiānus	Trōiānī m.	der Trojaner	the Trojan	طروادي (متعلق ب طروادة)
	diū	Adv.	lange	for a long time	لوقت طويل
	Graecus	-a, -um	griechisch	Greek	يوناني
	Graecus	Graecī m.	der Grieche	the Greek	يوناني
	ubīque	Adv.	überall	everywhere	في كل مكان
	prō	Präp. + Abl.	für	for	ل / من أجل

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	timēre	timeō, timuī	Angst haben, sich fürchten	to be afraid, to fear	يخاف / يخشى / يرهب
	Venus	Veneris f.	Venus	Venus	فينوس
	adīre	adeō, adiī	an jdn. herangehen, sich jdm. nähern	to approach someone	يقترّب من شخص ما / يأتي بالقرب من شخص ما
	monēre	moneō, monuī	mahnen, ermahnen	to warn, to admonish	يحذر / ينصح / يعاتب
	perīre	pereō, periī	ums Leben kommen, sterben	to die	يفقد حياة / يموت
	pius	-a, -um	pflichtbewusst	dutiful, conscientious	مطيع / ملتزم / على قدر المسؤولية
	currere	currō, cucurrī	laufen	to run	يجري / يركض
	esse	sum, fuī	sein	to be	يكون
	socius	sociī m.	Gefährte	fellow	زميل / رفيق
	penātēs	m. Pl. (Gen. Pl.: penātium)	Penaten (Schutzgötter des Haushaltes)	Penates (household deities)	دي بناتس (آلهة المنازل)
	dare	dō, dedī	geben	to give	يعطي / يمنح
	dextra	dextrae f.	rechte Hand	right hand	اليد اليمنى
	ruinae	ruinārum f. Pl.	Ruinen, Trümmer	ruins	أطلال / أنقاض
	flamma	flammae f.	Flamme	flame	لهب / شعلة / نار
	lītus	lītoris n.	Küste, Strand	coast, beach	ساحل / شاطئ
	īre	eō, iī	gehen	to go	يذهب / يمشي
	respicere	respicīō, respēxi	zurückblicken	to look back	ينظر إلى الوراء
	oculus	oculī m.	Auge	eye	عين
	abīre	abeō, abiī	weggehen, verschwinden	to leave, to disappear	يغادر / يختفي
	trādere	trādō, trādidī	übergeben, anvertrauen	to hand over, to entrust	يسلم / يفوض / يأتمن
	dēspērāre	dēspērō	die Hoffnung aufgeben, verzweifeln	to give up hope, to despair	يبأس / يقط
	cum	Konjunktion + Perf.	als (plötzlich)	when (suddenly)	حين (فجأة)
	umbra	umbrae f.	Schatten, Schattenbild	shadow, shadow image	ظل / صورة الظل
	appārēre	appāreō, appāruī	erscheinen	to appear	يظهر / يبدو
	inquit		er/sie/es sagt, er/sie/es sagte	he/she/it says, he/she/it said	هو يقول / هي تقول / هو قال / هي قالت
	fātum	fātī n.	Schicksal, Schicksalsspruch	fate, prophecy	مصير / قضاء وقدر / نبوءة
	patria	patriae f.	Heimat	homeland	وطن
	novus	-a, -um	neu	new	جديد
	sine	Präp. + Abl.	ohne	without	دون / بدون
	temptāre	temptō	versuchen	to try	يحاول
	nāvis	nāvis f. (Gen. Pl.: nāvium)	Schiff	ship	سفينة
	posse	possum, potuī	können	can, to be able to	يقدر على / قادر على / يستطيع
Lektion 12	post	Präp. + Akk.	nach	after	بعد
	error	errōris m.	Irrfahrt	odyssey	مسار خاطئ (ملحمة الأوديسة)
	exīre	exeō, exiī	hinausgehen, herausgehen, verlassen	to go out, to leave	يخرج / يغادر
	ante	Präp. + Akk.	vor	in front of	أمام / قبل
	ipse	ipse m., ipsa f., ipsum n. Dem.-Pron.	selbst, persönlich, direkt, unmittelbar	itself, personally, directly, immediately	ذاتياً / شخصياً / مباشرة / على الفور
	habitāre	habitō	wohnen, bewohnen	to live (in)	يسكن / يمكث في / يقيم
	futūrus	-a, -um	zukünftig	future	مستقبلي / مستقبيل
	iubēre	iubeō, iussī	befehlen	to order	يطلب / يأمر
	tempus	temporis n.	Zeit	time	وقت

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	cōgnōscere	cōgnōscō, cōgnōvī	erfahren, in Erfahrung bringen	to experience, to get to know	يختبر / يعلم / يتعرف على
	deinde	Adv.	hierauf, dann	thereupon, then	ثم / إذا
	prōvidēre, prōvideō, prōvidī	prōvideō, prōvidī	voraussehen, vorhersehen	to foresee, to anticipate	يتوقع / يتكهن
	perīculum	perīculī n.	Gefahr	danger	خطر
	quandō?		wann?	when?	متى؟
	finis	finis m. (Gen. Pl.: finium)	Ende, Ziel	end	نهاية / هدف
	tot		so viele	so many	العديد من
	cōnsidere	cōnsidō, cōnsēdī	sich hinsetzen, sich niederlassen	to sit down	يجلس / يستقر / يستوطن
	grātia	grātia f.	Dank	gratitude, thankfulness	شكر / امتنان
	īnstituere	īnstituō, īnstituī	veranstalten, ausrichten, errichten	to organise, to put on, to build	ينظم / يعد / يؤسس
	dēligere	dēligō, dēlēgī	auswählen	to select	يختار / يحدد
	sacerdōs	sacerdōs, sacerdotis m., f.	Priester, Priesterin	priest	كاهن
	respondēre	respondeō, respondi	antworten	to answer, to respond	يرد / يجيب
	quamquam	Konjunktion	obwohl	although	على الرغم من
	subīre	subeō, subī	ertragen, auf sich nehmen	to bear, to take upon oneself	يتحمل / يأخذ على عاتقه
	adīre	adeō, adiī	an jdn. herangehen, sich jdm. nähern, auf sich nehmen	to approach someone, to take upon oneself	يقترّب من شخص ما / يأتي بالقرب من شخص ما / يأخذ على عاتقه
	terra	terrae f.	Land	land	أرض
	in	Präp. + Akk.	1. in (... hinein) , 2. gegen, 3. nach	1. into, 2. against, 3. to	1- داخل ؛ 2- ضد ؛ 3- إلى
	mox	Adv.	bald	soon	قريباً
	hostis	hostis m. (Gen. Pl.: hostium)	Feind	enemy	عدو
	bellum	bellī n.	Krieg	war	حرب
	saevus	saevus, -a, -um	wild	wild	بري / وحشي / متوحش / شرس
	adesse	adsum, adfuī	da sein, anwesend sein, (+ Dat. :) jdm. beistehen, helfen	to be there, to be present; to assist someone, to help	ليكون هناك / ليكون حاضراً (+ الصفة) لمساعدة شخص / ليساعد
	cēdere	cēdō, cessī	gehen, zurückweichen, weichen, nachgeben	to go, to retreat, to give way, to give in	يذهب / ينسحب / يفسح له / يستسلم
Lektion 13	condere	condō, condidī	gründen	to found	يؤسس / يشيد
	parāre	parō + Inf.	vorbereiten, zubereiten; sich vorbereiten, etwas zu tun	to prepare; to prepare oneself to do something	يجهز / يعد / يحضر / يعد نفسه لعمل شيء
	pāstor	pāstōris m.	Hirte	shepherd	الراعي
	invenīre	inveniō, invēnī	finden	to find	يجد / يعثر على
	uterque		jeder von beiden	both of them	كلا منهما
	regere	regō, rēxī	regieren, herrschen	to reign, to rule	يسيطر / يحكم
	cōnsilium	cōnsiliū n.	Rat, Beratung, Plan	advice, counsel, plan	نصيحة / مشورة / خطة
	voluntās	voluntātis f.	Wunsch, Wille	wish, will	أمنية / وصية
	sex		sechs	six	ستة
	avis	avis f. (Gen. Pl.: avium)	Vogel	bird	طائر
	rēgnum	rēgnī n.	Herrschaft, Königtum, Thron	reign, monarchy, throne	عهد / حكم / مملكة / عرش
	duodecim		zwölf	twelve	إثنا عشر
	tunc	Adv.	dann	then	إذن / إذا
	habēre	habeō, habuī	haben, halten	to have, to hold	يملك / يمتلك / يمسك
	rēx	rēgis m.	König	king	ملك
	aliī ... aliī		einige ... andere	some ... others	البعض ... والبعض الآخر
	contendere	contendō, contendī	behaupten	to claim, to maintain	يدعي / يقول / يزعم

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	anteā	Adv.	vorher, früher, zuvor	before, earlier	قبل / قبل ذلك / في وقت سابق
	appellāre	appellō	ansprechen, (jdn. etwas) nennen	to address, to call (someone something)	يخاطب / يذكر (الشخص شيئاً ما)
	vix	Adv.	kaum	hardly	بالكاد
	incipere	incipiō, coepī	anfangen, beginnen	to begin, start, commence	يبدأ / يشرع في فعل شيء
	mūrus	mūrī m.	Mauer	wall	حائط / جدار / سور
	īnstruere	īnstruō, īnstrūxī	anweisen, unterrichten; bauen	to instruct, to teach; to build	يرشد / يدرّس / يبني
	rīdēre	rīdēo, rīsī	lachen, auslachen	to laugh, to laugh at someone	يضحك / يسخر من شخص
	scelestus	-a, -um	verbrecherisch, gottlos	criminal, wicked	مجرم / شرير / ملحد / كافر
	caedere	caedō, cecidī	töten, schlachten	to kill, to slaughter	يقتل / يذبح
	caedēs	caedis f. (Gen. Pl.: caedium)	Ermordung, Mord	murder	قتل / اغتيال
	occupāre	occupō	einnehmen, ergreifen	to conquer, to capture	يحتل / يستولي على / يفتنم
Lektion 14	rōstra	rōstrōrum n. Pl.	Rednerbühne (auf dem Forum Romanum)	speaker's platform (in the Forum Romanum)	منبر الخطيب (في المنتدى الروماني)
	cīvis	cīvis m. (Gen. Pl.: cīvium)	Bürger	citizen	مواطن
	ager	agrī m.	Acker	field	حقل (زراعي)
	ager	agrī m.	Feld	field	قطعة أرض / حقل
	pellere	pellō, pepulī	vertreiben	to expel, to drive away	طرد
	probus	-a, -um	anständig	decent, good	لائق
	probus	-a, -um	tüchtig	capable	قادر على / كفء / بارع
	probus	-a, -um	gut	good	جيد
	labōrāre	labōrō	arbeiten	to work	عمل
	labōrāre	labōrō	(+ Abl. :) an etwas leiden	(+ ablative:) to suffer from something	يعاني من شيء
	urgēre	urgeō, ursī	drängen	to insist on sth, to press	أضغط
	urgēre	urgeō, ursī	bedrängen	to pressure	يحث / يشجع على
	ūnus	-a, -um (Gen.: ūnīus, Dat.: ūnī)	einer	one, a single	واحد
	grātia	grātiae f.	Dank	thankfulness	شكراً
	grātia	grātiae f.	Gunst	favour	محاباة / صنيع / نعمة / عفو
	grātia	grātiae f.	Beliebtheit	popularity	شعبية
	populus	populī m.	Volk	a people	الناس / الشعب
	lapis	lapis m.	Stein	stone	حجر
	in	Präp. + Akk.	in ... (hinein)	into	إلى / في / داخل
	in	Präp. + Akk.	gegen	against	ضد / مقابل
	in	Präp. + Akk.	nach	to	إلى
	in	Präp. + Akk.	auf	on	على
	iacere	iaciō, iēcī	werfen	to throw	رمى
	quod	Konjunktion	weil	because	لأن
	monēre	moneō, monuī	mahnen	to remind	ذكر
	monēre	moneō, monuī	ermahnen	to warn	يلوم / يعاتب
	monēre	moneō, monuī	warnen	to warn	حذر
	auris	auris f. (Gen. Pl.: aurium)	Ohr	ear	أذن
	vincere	vincō, vīcī	siegen	to win	يفوز / ينتصر
	vincere	vincō, vīcī	besiegen	to defeat	تغلب

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	glōria	glōriae f.	Ehre	honour	شرف
	glōria	glōriae f.	Ruhm	glory	مجد
	vērō	Adv.	wirklich	truly	حقاً
	vērō	Adv.	tatsächlich	really	فعلاً / بالفعل / في الحقيقة
	sēdēs	sēdis f.	Wohnsitz	residence	سكن / محل الإقامة
	lūxuria	lūxuriae f.	Genusssucht	luxury	تبذير
	avāritia	avāritiae f.	Habgier	greediness	جشع
	avāritia	avāritiae f.	Geiz	stinginess	بخل / شح / حرص
	quamdiū?		wie lange?	how long?	حتى متى؟ / كم المدة؟
	opprimere	opprimō, oppressī	unterdrücken	to oppress	اضطهد
	lēx	lēgis f.	Gesetz	law	قانون
	accipere	accipiō, accēpī	annehmen	to accept	قبل
	accipere	accipiō, accēpī	aufnehmen	to receive	أخذ على عاتقه
	mūtāre	mūtō	verändern	to change	تغير
Lektion 15	īra	īrae f.	Zorn	anger, rage	غضب / غضب / سخط
	ārdēre	ārdēō, ārsī, -	brennen	to burn	حرق
	quī	quī m., quae f., quod n. Rel.-Pron.	der/welcher	he who	هو من / هذا الذي
	quī	quī m., quae f., quod n. Rel.-Pron.	die/welche	she who	هي التي / هي من
	quī	quī m., quae f., quod n. Rel.-Pron.	das/welches	that which	هذه التي / هذا الذي
	obses	obsidis m., f.	(die) Geisel	hostage	رهينة
	obses	obsidis m., f.	(die) Geisel	hostage	رهينة
	nōnnūllī	-ae, -a Pl.	einige	several	العديد من / البعض من
	nōnnūllī	-ae, -a Pl.	manche	some, a few	بعض
	castra	castrōrum n. Pl.	Lager	camp	مخيم
	castra	castrōrum n. Pl.	Kriegslager	military camp	معسكر الحرب
	fallere	fallō, fefellī, -	täuschen	to deceive	خدع
	flūmen	flūminis n.	Fluss	river	نهر
	dūcere	dūcō, dūxī, ductum	führen	to lead	قاد
	tēlum	tēlī n.	Geschoss	weapon	قذيفة
	tēlum	tēlī n.	Wurfgeschoss	javelin	قذيفة / منجنيق
	iactāre	iactō, iactāvī, iactatūm	werfen	to throw	رمى
	iactāre	iactō, iactāvī, iactatūm	schleudern	to hurl	رمى بعنف
	neque	Konjunktion	und nicht	and not	و لا / و ليس
	neque	Konjunktion	aber nicht	also not	لكن لا
	vulnus	vulneris n.	Wunde	wound	جرح
	recipere	recipiō, recēpī, receptum	aufnehmen	to receive, to take back	استلم
	foedus	foederis n.	Vertrag	treaty	معاهدة / إتفاقية / عقد
	foedus	foederis n.	Friedensvertrag	peace treaty	معاهدة سلام
	foedus	foederis n.	Bündnis	alliance	تحالف
	explēre	expleō, explēvī, explētūm	erfüllen	to fulfil	وفى
	vocāre	vocō, vocāvī, vocātum	rufen	to call	اتصل ب

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	vocāre	vocō, vocāvī, vocātum	nennen	to name	سمى
	nūntius	nūntiī m.	Bote	messenger	رسول / حامل رسالة / ساع
	mittere	mittō, mīsī, missum	schicken	to send	ارسل
	mittere	mittō, mīsī, missum	wegschicken	to send away	ابعد / طرد
	repetere	repetō, repetīvī, repetītium	zurückverlangen	to demand back	طالب
	sī	Konjunktion	wenn	if	إذا
	rumpere	rumpō, rūpi, ruptum	brechen	to break	كسر
	rumpere	rumpō, rūpi, ruptum	zerbrechen	to break apart	حطم
	aliter	Adv.	sonst	otherwise	وإلا
	aliter	Adv.	andernfalls	differently	وإلا
	apud	Präp. + Akk.	bei	at, by, near, among	لدى / عند / في / بجانب
	manēre	maneō, mānsi, mānsūm	erwarten	to expect	توقع
	manēre	maneō, mānsi, mānsūm	bleiben	to stay, to remain	بقي / ظل
	Etruscūs	-a, -um	etruskisch	Etruscan	اتروسكان
	Etrūscus	Etrūscī m.	der Etrusker	the Etruscan	الأترووري / الإتروسكاني
	reddere	reddō, reddidī, redditum	zurückgeben	to give back	ردّ
	timēre	timēo, timuī, -	sich fürchten	to fear	خاف
	timēre	timēo, timuī, -	Angst haben	to be scared	خاف من
	timēre	timēo, timuī, -	(+Akk. :) Angst haben vor	(+accusative:) to be scared of	يخاف من
	libertās	libertātis f.	Freiheit	freedom	حرية
	remittere	remittō, remisī, remissum	zurückschicken	to send back	ردّ
	intereā	Adv.	inzwischen	meanwhile	في غضون / في هذه الأثناء
	intereā	Adv.	in der Zwischenzeit	in the meantime	في هذه الأثناء
	mūtāre	mūtō, mūtāvī, mūtātum	verändern	to change	غير
	mūtāre	mūtō, mūtāvī, mūtātum	verwandeln	to transform	تحول
	virtūs	virtūtis f.	Tapferkeit	courage	بساله / شجاعة
	virtūs	virtūtis f.	Tugend	virtue	فضيلة
	cōgnōscere	cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum	erfahren	to learn	تعلم
	cōgnōscere	cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum	in Erfahrung bringen	to find out	اكتشف
	cōgnōscere	cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum	erkennen	to recognise	اعترف
	redīre	redeō, rediī, reditum	zurückkehren	to return	عاد
	redīre	redeō, rediī, reditum	zurückgehen	to go back	عاد
	facinus	facinoris n.	Handlung	action	عمل / تصرف
	facinus	facinoris n.	Tat	deed	عمل / فعل
	laudāre	laudō, laudāvī, laudātum	loben	to praise	مدح
	ob	Präp. + Adv.	wegen	on account of, because of	بسبب
	honor	honōris m.	Ehre	honour	شرف
	afficere	afficiō, affēcī, affectum	mit etw. versehen	to get, to receive	لصق / وضع
	pōnere	pōnō, posuī, positum	stellen	to place	وضع
	pōnere	pōnō, posuī, positum	aufstellen	to put up	نصب / جعله واقفا
	dēfendere	dēfendō, dēfendī, dēfēnsūm	verteidigen	to defend	دافع عن

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	scribere		schreiben	to write	كتب
	tangere	tangō, tetigi, tāctum	berühren	to touch	لمس
	facere		machen	to make	صنع
	facere		tun	to do	فعل
	accipere		annehmen	to accept	قبل
	accipere		aufnehmen	to receive	استلم
	corrumpere		verderben	to spoil	افسد
	dēfendere		verteidigen	to defend	دافع عن
	scribere	scribō, scripsī, scriptum	schreiben	to write	كتب
	tangere	tangō, tetigi, tāctum	berühren	to touch	لمس
	facere	faciō, fēcī, factum	machen	to make	صنع
	facere	faciō, fēcī, factum	tun	to do	فعل
	accipere	accipiō, accēpī, acceptum	annehmen	to accept	قبل
	accipere	accipiō, accēpī, acceptum	aufnehmen	to receive	استلم
	corrumpere	corrumpō, corrūpī, corruptum	verderben	to spoil	افسد
	caedere	caedō, cecidī, caesum	schlachten	to slaughter	ذبح
	caedere	caedō, cecidī, caesum	töten	to kill	قتل
	condere	condō, condidī, conditum	gründen	to found	اسس
	rīdēre	rīdēō, rīsī, rīsum	lachen	to laugh	ضحك
	rīdēre	rīdēō, rīsī, rīsum	(+ Akk. :) auslachen	(+accusative:) to laugh at	ضحك على
	pellere	pellō, pepulī, pulsum	vertreiben	to expel	طرد
	īnstruere	īnstruō, īnstrūxī, īnstrūctum	anweisen	to instruct	ارشد
	īnstruere	īnstruō, īnstrūxī, īnstrūctum	unterrichten	to teach	علم / درس
	īnstruere	īnstruō, īnstrūxī, īnstrūctum	bauen	to build	بنى
	opprimere	opprimō, oppressī, oppressum	unterdrücken	to oppress	اضطهد
Lektion 16	Catō	Catōnis m.	Cato	Cato	كاتو
	gravis	gravis m., gravis f., grave n.	ernst	grave, serious	جدي / بجديّة / جاد
	gravis	gravis m., gravis f., grave n.	charakterfest	with strength of character	ثابت / صارم
	comes	comitis m.	Begleiter	companion	رفيق
	prōvincia	prōvinciae f.	Provinz	province	مقاطعة
	mōs	mōris m.	Sitte	custom	عرف / تقليد
	mōs	mōris m.	Brauch	tradition	تقليد / عرف
	illūstris	illūstre	bekannt	prominent	معروف
	illūstris	illūstre	berühmt	famous	مشهور
	cōgnōscere	cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum	erfahren	to learn	تعلم
	cōgnōscere	cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum	in Erfahrung bringen	to find out	اكتشف
	cōgnōscere	cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum	erkennen	to recognise	اعترف
	cōgnōscere	cōgnōscō, cōgnōvī, cōgnitum	kennenlernen	to get to know	تعرف على
	grandis	grande	groß	large, great	كبير / عظيم
	grandis	grande	bedeutend	eminent	مهم / هام
	tunc	Adv.	dann	then	ثم

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	tunc	Adv.	damals	at that time	في ذلك الوقت / حينذاك
	varius	-a, -um	verschieden	diverse	مختلف / متنوع
	varius	-a, -um	verschiedenartig	various	مختلف / متنوع
	dīvidere	dīvidō, dīvisī, dīvisum	teilen	to divide	شارك
	dīvidere	dīvidō, dīvisī, dīvisum	unterteilen	to divide	قسم
	singulāris	singulāre	einzigartig	unique	فريد
	velut		wie zum Beispiel	just as, like	مثل / على سبيل المثال
	vās	vāsīs n.	Gefäß	vessel	وعاء / إناء
	praebēre	praebēō, praebuī, praebitum	gewähren	to grant	منح
	praebēre	praebēō, praebuī, praebitum	anbieten	to offer	منح
	omnis	omne	jeder	every	كل / أي
	omnis	omne	ganz (Singular)	entire (singular)	كامل (المفرد)
	omnis	omne	alle (Plural)	all (plural)	الكل / الجميع
	ubi	Konjunktion	als	when	عندما / لما
	ubi	Konjunktion	sobald	as soon as	في أقرب وقت / بمجرد أن
	rēgius	-a, -um	königlich	royal	ملكي
	audāx	Gen. audācis	wagemutig	bold	جريء / جسور
	audāx	Gen. audācis	frech	cheeky, daring	صفيق / وقح
	audēre	audeō	wagen	to dare	تجرأ
	agere	agō, ēgī, āctum	handeln	to act	تصرف / نفذ
	agere	agō, ēgī, āctum	tun	to do	فعل
	alius	alia, aliud (Gen.: alterius, Dat.: aliī)	ein anderer	another	آخر
	aliī	-ae, -a	andere	other	آخرون
	aliī ... aliī		einige ... andere	some ... others	البعض ... والبعض الآخر
	modus	modī m.	Art	manner	طريقة
	modus	modī m.	Weise	way	طريقة / كيفية
	dōnāre	dōnō	schenken	to give (as a present)	اعطى
	fēlix	Gen. fēlicis	glücklich	happy	سعيد
	ingēns	Gen. ingentis	ungeheuer groß	huge, enormous	مفرط الضخامة / مفرط في كبر الحجم
	celer	celeris, celere	schnell	fast	سريع
	accēdere	accēdo, accessī, accessum	sich nähern	to approach	اقترب
	accēdere	accēdo, accessī, accessum	herbeikommen	to come	اقترب
	ācer	ācris, ācre	energisch	firm	عنيف / شرس / بحيوية
	ācer	ācris, ācre	hitzig	heated	مسخن / حار / حاد / ساخن / متوتر
	ācer	ācris, ācre	scharf	sharp	حاد
	sibī	Dat.	sich	himself	نفسه / نفسها
	parāre	parō	vorbereiten	to prepare	جهز
	parāre	parō	zubereiten	to cook	طبخ
	parāre	parō	(+ Inf. :) sich vorbereiten, etwas zu tun	(+ infinitive:) to prepare to do something	يستعد / يعد العدة للقيام بشيء
	parāre	parō	verschaffen	to obtain	حصل على
Lektion 17	Caesar	Caesaris m.	Caesar	Caesar	قيصر

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	procul	Adv.	weit (weg)	far	بعيداً
	procul	Adv.	in der Ferne	in the distance	في البعيد / في البعد
	pīrāta	piratae m.	Seeräuber	pirate	قرصان
	pīrāta	piratae m.	Pirat	pirate	قرصان
	brevis	breve	kurz	short	قصير
	dux	ducis m.	Anführer	leader	زعيم / قائد
	nōbilis	nōbile	adlig	aristocratic	أرستقراطي
	nōbilis	nōbile	vornehm	noble	نبيل / شريف / وجيه
	dīves	Gen. dīvitis (Abl. Sg. : -e, Nom. Pl. n. : -	reich	rich, wealthy	غني
	solvere	solvō, solvī, solūtum	zahlen	to pay	دفع
	solvere	solvō, solvī, solūtum	bezahlen	to pay for	دفع مقابل
	vīgintī		zwanzig	twenty	عشرون
	nūllus	-a, -um (Gen. : nūllius, Dat. : nūllī)	keiner	no one	لا أحد
	terrēre	terreō, terruī, territum	erschrecken	to frighten	فزع
	tantum	Adv.	nur	only	فقط
	pōscere	pōscō, popōscī, -	fordern	to demand	طلب
	putāre	putō	glauben	to believe	اعتقد
	putāre	putō	meinen	to think	عنى / قصد
	quīnquāgintā		fünfzig	fifty	خمسون
	capere	capiō, cēpī, captum	fangen	to capture	مسك
	capere	capiō, cēpī, captum	ergreifen	to seize	استولى / مسك
	capere	capiō, cēpī, captum	erobern	to conquer	استولى
	capere	capiō, cēpī, captum	gefangen nehmen	to take sb prisoner	قبض على
	propinquus	-a, -um	nahe	near	قريب / قرب
	propinquus	-a, -um	benachbart	neighbouring	قريب من
	colligere	colligō, collēgī, collēctum	sammeln	to collect	جمع
	sē gerere	gerō, gessī, gestum	sich verhalten	to behave	تأدب
	cum	Konj. + Impf.	jedes Mal wenn	whenever	في كل مرة (عندما)
	dormīre	dormiō	schlafen	to sleep	نام
	carmen	carminis n.	Gedicht	poem	قصيدة
	carmen	carminis n.	Lied	song	أغنية
	recitāre	recitō	vorlesen	to read aloud, recite	قرأ بصوت عال
	laus	laudis f.	Lob	praise	مدح / ثناء
	audācia	audāciae f.	Frechheit	audacity	وقاحة / صفاقة
	audācia	audāciae f.	Mut	courage	شجاعة
	perturbāre	perturbō	verwirren	to confuse	شوش
	perturbāre	perturbō	in Unruhe versetzen	to trouble	زعزع
	captivus	captivī m.	Gefangener	prisoner	أسير
	an?	Konjunktion	oder (etwa)?	or, or rather	أليس كذلك؟
	supplicium	supplicī n.	Todesstrafe	death penalty	عقوبة الإعدام
	expōnere	expōnō, exposuī, expositum	aussetzen	to release	أجل / أرجأ تنفيذ حكم

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	proximus	-a, -um	der nächste	the next	التالي
	īnstāre	īnstō, īnstitī, -	bevorstehen	to await	لوح في الأفق
	īnstāre	īnstō, īnstitī, -	drohen	to threaten	هدد
	īnstāre	īnstō, īnstitī, -	verfolgen	to pursue	تابع
	carcer	carceris m.	Gefängnis	prison	سجن
	timor	timōris m.	Furcht	fear	خوف
	timor	timōris m.	Angst	fear	خوف
	amor	amōris m.	Liebe	love	حب
	terror	terrōris m.	Schrecken	terror, panic	رعب
Lektion 18	Cicerō	Cicerōnis m.	Cicero	Cicero	شيشرون
	Catīlina	Catīlinae m.	Catilina	Catiline	كاتالينا
	īgnōrāre	īgnōrō	nicht kennen	not to know	عدم المعرفة
	īgnōrāre	īgnōrō	nicht wissen	to be unaware of	عدم المعرفة
	et	Konjunktion	und	and	و
	et ... et	Konjunktion	sowohl ... als auch	both ... and	طالما / سواء أن / على حد سواء
	patrēs cōnscrīptī	patrum cōnscrīptōrum m.	Senatoren	senators	أعضاء مجلس الشيوخ
	coniūrātiō	coniūrātiōnis f.	Verschwörung	conspiracy	مؤامرة
	iste	ista, istud	dieser da	that	هذا
	immō	Adv.	vielmehr	on the contrary	بل / إنما
	immō	Adv.	ja sogar	even	نعم، وحتى
	contemnere	contemnō, contempsī,	verachten	to despise	احتقر
	interesse	intersum, interfui, -	sich dazwischen befinden	to be between	كان بين شيئين
	interesse	intersum, interfui, -	(+ Dat. :) an etw. teilnehmen	(+dative:) to attend	يشترك في
	nostrum	Gen. von nōs	von uns	of us	منا
	nōndum	Adv.	noch nicht	not yet	ليس بعد
	dēligere	dēligō, dēlēgī, dēlēctum	auswählen	to choose	اختار
	patēre/patet	pateō, patuī, -	offenbar sein	to be obvious	كان واضحا
	patēre/patet	pateō, patuī, -	offen stehen	to be open	كان مفتوحا
	patet	+ Acl	es ist offenbar, dass ...	it is obvious that ...	من الواضح أن ...
	satis	Adv.	genug	enough	كاف
	satis est	+ Acl	es ist genug, dass ...	it is enough that ...	يكفي أن ...
	latēre	lateō, latuī, -	verborgen sein	to be concealed	كان غير واضح
	latēre	lateō, latuī, -	versteckt sein	to be hidden	كان مخفيا
	vestrum	Gen. von vōs	von euch	of you	منكم / بخصمكم
	salvus	-a, -um	gesund	healthy	صحي
	salvus	-a, -um	wohlbehalten	well, unharmed	سالم / حسن / في حالة طيبة
	nēmō	Gen. : nūllīus, Dat. : nēminī, Akk. :	niemand	no one	لا أحد
	dēsīnere	dēsīnō, dēsīi, dēsītum	aufhören	to cease, to stop	توقف
	quamdiū	Konjunktion	so lange (wie)	as long (as)	طالما
	Rōmae		in Rom	in Rome	في روما
	pars	partis f.	Teil	part	جزء / قطعة / حصة

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	incendere	incendō, incendi, incensum	in Brand stecken	to set on fire	شعل نارا
	incendere	incendō, incendi, incensum	entflammen	to burn, to kindle	تأجج
	proinde	Adv.	also	therefore	أيضاً
	proinde	Adv.	deswegen	therefore	ولذلك
	excēdere	excēdō, excessī, excessum	hinausgehen	to go out	خرج
	excēdere	excēdō, excessī, excessum	sich entfernen	to depart from sth	انسحب
	relinquere	relinquō, reliquī, relictum	zurücklassen	to leave behind	ترك خلفه
	relinquere	relinquō, reliquī, relictum	verlassen	to leave	غادر
	ūnā	Adv.	zusammen	together	سويًا / معاً
	ōrātiō	ōrātiōnis f.	Rede	speech	خطاب / حديث
	arcēre	arceō, arcuī, -	abwehren	to repel	صدّ / رفض
	arcēre	arceō, arcuī, -	fernhalten	to keep off, to ward off	ابتعد
	tēctum	tēctī n.	Dach	roof	سقف
	tēctum	tēctī n.	Haus	house	منزل / بيت
	aeternus	-a, -um	ewig	eternal	أبدي / سرمدي
Lektion 19	Ulixēs	Ulixīs m.	Odysseus	Odysseus	أوديسيوس
	Circē	Circae f.	Kirke	Circe	سيرس
	vīvere	vīvō, vīxī, -	leben	to live	عاش
	iter	itineris n.	Weg	way	طريق
	iter	itineris n.	Fahrt	journey	رحلة / سفر
	cōstituere	cōstituō, cōstituī, cōstitutum	beschließen	to decide	قرر
	ōrnāre	ōrnō	ausrüsten	to equip	جهز
	docēre	doceō, docuī, doctum	unterrichten	to inform	أصدر تعليمات
	docēre	doceō, docuī, doctum	lehren	to teach	درس
	imprīmīs	Adv.	vor allem	above all	قبل كل شيء
	imprīmīs	Adv.	besonders	especially, particularly	خصوصاً / ولا سيما
	Sīrēnēs	Sīrēnum f. Pl.	Sirenen	sirens	صفارات الإنذار
	nāvigāre	nāvigō	segeln	to sail	أبحر
	īnsula	īnsulae f.	Insel	island	جزيرة
	situs	-a, -um	befindlich	lying	واقع في / يقع في
	situs	-a, -um	gelegen	positioned	واقع في / مثبت / محدد موضعه
	prope	Präp. + Akk.	nahe bei	near	قريب من
	prope	Präp. + Akk.	in die Nähe (von)	near by	في محيط... / بالقرب من ...
	dulcis	dulce	süß	sweet	حلو
	dulcis	dulce	angenehm	pleasant	ممتع
	vērō	Adv.	wirklich	really	حقاً
	vērō	Adv.	tatsächlich	actually	فعلاً / بالفعل / في الحقيقة
	vērō	Adv.	aber	in truth	لكن
	cōgere	cōgō, cōēgī, cōactum + Akk. +	jdn. zwingen, etw. zu tun	to force so to do sth	أجبر شخصاً على فعل شيء
	numquam	Adv.	niemals	never	أبداً
	accidere	accidō, accidī, -	geschehen	to happen, to occur	حدث

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	accidere	accidō, accidī, –	zustoßen	to happen to	حدث لـ
	memoria	memoriae f.	Gedächtnis	memory (the ability to remember)	ذاكرة / تذكر (القدرة على الحفظ)
	memoria	memoriae f.	Erinnerung	memory (something memorised)	تذكرى
	unda	undae f.	Welle	wave	موجة
	unda	undae f.	Flut	flood	فيضان
	āmittere	āmittō, āmisi, āmissum	verlieren	to lose	خسر
	monēre	moneō, monui, monitum	mahnen	to remind	تذكر
	monēre	moneō, monui, monitum	ermahnen	to admonish	عاتب
	monēre	moneō, monui, monitum	warnen	to warn	حذر
	solvere	solvō, solvi, solūtum	zahlen	to pay	دفع
	solvere	solvō, solvi, solūtum	bezahlen	to pay for	لدفع مقابل
	solvere	solvō, solvi, solūtum	lösen	to loosen	حل
	solvere	solvō, solvi, solūtum	losbinden	to untie	فك
	postquam	Konjunktion + Perf.	nachdem	after	بعد / بعد أن
	praeter	Präp. + Akk.	an ... vorbei	past	تجاوز شيء
	dum	Konjunktion + Präs.	während	while, as	أثناء
	frustrā	Adv.	vergeblich	in vain	بلا فائدة / دون طائل
	frustrā	Adv.	umsonst	for nothing	بدون مقابل / بلا جدوى / مجاني
	vinculum	vinculī n.	Fessel	tie	قيود / قيود
	neglegere	neglegō, neglēxi, neglēctum	nicht beachten	to ignore	تجاهل
	neglegere	neglegō, neglēxi, neglēctum	vernachlässigen	to neglect	همل
	effugere	effugiō, effūgi, –	entfliehen	to flee	هرب
	effugere	effugiō, effūgi, –	entkommen	to escape	هرب
Lektion 20	is	is m., ea f., id n. Dem.-Pron.	dieser	this, that	هذا
	is	is m., ea f., id n. Dem.-Pron.	der(jenige)	he (who)	هو (من)
	nōn modo ... sed etiam		nicht nur ... sondern auch	not only ... but also	ليس فقط ... وإنما أيضا
	bestia	bestiae f.	(wildes) Tier	beast	حيوان (بري)
	diēs	diēi m.	Tag	day	يوم
	nūptiae	nūptiarum f. Pl.	Hochzeit	wedding	زواج
	pēs	pedis m.	Fuß	foot	قدم
	pēs	pedis m.	Fuß als Längenmaß(ca. 30 cm)	foot (a measure of length, ca. 30 cm)	قدم كوحدة للطول (= 30 سم)
	perniciēs	perniciēi f.	Verderben	ruin	موت / هلاك / فناء
	rēs	reī f.	Sache	thing, matter	شيء / حالة
	rēs	reī f.	Vorfall	affair	حدث / حادث / واقعة
	flēre	fleō, flēvi, flētum	(be)weinen	to weep over	يبكي بشان / يبكي على
	plēnus	-a, -um + Gen.	voll	full	كامل / تام
	dolor	dolōris m.	Schmerz	grief, sorrow	الم
	commovēre	commoveō, commōvi,	bewegen	to affect	تحرك
	commovēre	commoveō, commōvi,	veranlassen	to arrange (for)	رتب من أجل
	commovēre	commoveō, commōvi,	(jdn.) rühren	to move someone (emotionally)	أثر شخصا (عاطفياً)
	Plūtō	Plūtōnis m.	Pluto	Pluto	بلوتو

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	rēgīna	rēgīnae f.	Königin	queen	ملكة
	pergere	pergō, perrēxī, perrēctum	etw. weiter tun	to continue	واصل
	pergere	pergō, perrēxī, perrēctum	fortsetzen	to proceed, to continue	مضى قدما / استأنف
	dēmum	Adv.	endlich	finally, at last	أخيراً
	pervenire	perveniō, pervēnī, perventum	gelangen	to reach, to arrive at	وصل
	spēs	speī f.	Hoffnung	hope	أمل
	cōnsistere	cōnsistō, cōnstitī, –	sich aufstellen	to stand up	اتخذ موقفا
	cōnsistere	cōnsistō, cōnstitī, –	Halt machen	to stop	توقف
	fidēs	fidēī f.	Schutz	protection	حماية
	fidēs	fidēī f.	Beistand	support	دعم / مساندة
	ōrāre	ōrō	(er)bitten	to ask (for)	طلب
	quaesō		(ich) bitte!	please!	من فضلك! رجاء!
	salūs	salūtis f.	Wohlergehen	well-being	رفاهية / رخاء
	mandāre	mandō	übergeben	to entrust, to put in hand	عهد إلى / سلم
	turba	turbae f.	Menge	crowd	كثرة / حشد / أغلبية / جماهير
	optāre	optō	wünschen	to wish	تمنى
	lūx	lūcis f.	Licht	light	ضوء / نور
	lūx	lūcis f.	Tageslicht	daylight	ضوء النهار
	animus	animī m.	Geist	mind	عقل
	animus	animī m.	Gemüt	nature	طبيعة / نفس / روح
	animus	animī m.	Herz	heart	قلب
	animus	animī m.	Mut	courage	شجاعة
	abesse	absūm, āfuī, –	weg sein	to be absent	غاب
	abesse	absūm, āfuī, –	entfernt sein	to be away from	غاب
	dēsiderium	dēsideriī n.	Sehnsucht	longing	شوق / حنين
	superāre	superō	überwinden	to overcome	تغلب على
	superāre	superō	überwältigen	to overpower	تغلب على
	ē, ex	Präp. + Abl.	aus (... heraus)	(out) of	خارج من / من / منذ
	ē, ex	Präp. + Abl.	von	from	من / من عند
	ē, ex	Präp. + Abl.	seit	since	منذ
Lektion 21	redūcere	redūcō, redūxī, reductum	zurückführen	to lead back	يرجع ه إلى / يرد ه إلى
	redūcere	redūcō, redūxī, reductum	hinbringen	to bring	أحضر
	grātia	grātiaē f.	Dank	thankfulness	شكر / امتنان
	grātia	grātiaē f.	Gunst	favour	محاباة / صنيع / نعمة / عفو
	grātia	grātiaē f.	Beliebtheit	popularity	شعبية
	grātiās agere	grātiās agō, ēgī, āctum	danken	to thank	شكر
	grātiās agere	grātiās agō, ēgī, āctum	Danke sagen	to say thank you	ابدى شكره
	māximē	Adv.	am meisten	most	الأكثر
	aurum	aurī n.	Gold	gold	ذهب
	prūdēns	Gen. prūdētis prūdenter	klug	smart	ذكي
	prūdenter	Adv.	klug	wisely, prudently	بذكاء / ببطنة

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	fidēs	fideī f.	Schutz	protection	حماية
	fidēs	fideī f.	Beistand	support	دعم / مساندة
	fidēs	fideī f.	Zuverlässigkeit	reliability	موثوقية / ثقة / اعتماد على
	fidēs	fideī f.	Treue	loyalty	ولاء / إخلاص
	temptāre	temptō	versuchen	to try	حاول
	temptāre	temptō	prüfen	to test	فحص
	temptāre	temptō	auf die Probe stellen	to test	اختبر
	arbor	arboris f.	Baum	tree	شجرة
	trahere	trahō, trāxī, tractum	ziehen	to pull	سحب
	tenēre	teneō, tenuī, tentum	halten	to hold	مسك
	mīrus	-a, -um	wunderbar	wonderful	رائع
	mīrus	-a, -um	erstaunlich	astounding	مذهل
	cōnspicere	cōnspiciō, cōnspēxī, cōnspectum	erblicken	to notice, to catch sight of	لمح
	cōnspicere	cōnspiciō, cōnspēxī, cōnspectum	sehen	to see	رأى
	ingere	ingō, ingxī, fictum	vorstellen	to imagine	تخيل
	ingere	ingō, ingxī, fictum	ausdenken	to feign, to deceive	فكر في
	(ab- / ad- / ex- / per- / red- / sub-) iēns	Gen. euntis	PPA von ire	Present Active Participle of ire	اسم الفاعل من (ire)
	cēnāre	cēnō	speisen	to dine	تناول الطعام
	cēnāre	cēnō	die Hauptmahlzeit zu sich nehmen	to eat one's main meal	أكل الوجبة الرئيسية
	pōculum	pōculī n.	Becher	goblet	قدح كبير
	vīnum	vīnī n.	Wein	wine	نبيذ
	ōs	ōris n.	Mund	mouth	فم
	cibus	cibī m.	Speise	food	طعام
	dīvitiae	dīvitiārum f. Pl.	Reichtum	riches, wealth	ثروات / ثروة
	modo	Adv.	bloß	just	فقط
	modo	Adv.	nur	only	فقط
	modo	Adv.	gerade (eben)	just now	الآن فقط / منذ وهلة
	sīc	Adv.	so	thus, just like that, so	إذا / وبالتالي / هكذا
	torquēre	torqueō, torsī, tortum	foltern	to torture	عذب
	stultus	-a, -um	dumm	stupid	غبي
	venia	veniae f.	Verzeihung	mercy, forgiveness	مغفرة
	error	errōris m.	Irrfahrt	wandering	ملحمة
	error	errōris m.	Irrtum	error	خطأ
	error	errōris m.	Fehler	mistake	خطأ
	nisī	Konjunktion	wenn nicht	if not	إن لم
	liberāre	liberō	befreien	to liberate	حرر
Lektion 22	Alexander	Alexandrī m.	Alexander	Alexander	الেকسندر
	obtinēre	obtinēō, obtinūī, obtentum	erhalten	to receive	حصل على
	obtinēre	obtinēō, obtinūī, obtentum	innehaben	to hold	يملك / يحمل
	cīvitās	cīvitātis f. (Gen. Pl. : cīvitātium)	Bürgerschaft	citizenship	المواطنين
	cīvitās	cīvitātis f. (Gen. Pl. : cīvitātium)	Staat	state	دولة / ولاية

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	cōfirmāre	cōfirmō	bestätigen	to confirm	أكد
	sē	Akk.	sich	himself	نفسه / نفسها
	sē	Akk.	im Acl auch: er, sie, ihn; sie (Pl.)	in the accusative and infinitive also: he, she, him; they	في النصب مع صيغة المصدر أيضا: هو / هي؛ هم/هن
	praestāre	praestō, praestitī, –	sich hervortun	to stand out	برز
	praestāre	praestō, praestitī, –	sich auszeichnen	to excel	تفوق
	praestāre	praestō, praestitī, –	besser sein	to be superior	كان أفضل
	praestāre	praestō, praestitī, –	zeigen	to show	أظهر
	prō certō habēre	prō certō habēō, habuī, habitum	für sicher halten	to consider safe	اعتبر الشيء آمنا
	prō certō habēre	prō certō habēō, habuī, habitum	sich sicher sein	to be sure	تأكد
	sibī	Dat.	sich	himself/herself/itself/oneself	نفسه / نفسها
	sibī	Dat.	im Acl auch: ihm, ihr, ihn	in the accusative and infinitive also: him, her	في النصب مع صيغة المصدر أيضا: له / لها
	sub	Präp. + Abl.	unter	under	تحت
	imperium	imperīi n.	Befehl	command	طلب / أمر
	imperium	imperīi n.	Herrschaft	rule	ملك / سلطة / حكم
	libenter	Adv.	gern	with pleasure	بكل سرور
	mōs	mōris m.	Sitte	custom	عرف / تقليد
	mōs	mōris m.	Brauch	tradition	تقليد / عرف
	mōrēs	mōrum m. Pl.	Charakter	character	شخصية
	Diogenēs	Diogenis m.	Diogenes	Diogenes	ديوجين
	velle	volō, voluī, –	wollen	to want	أراد
	velle	volō, voluī, –	wünschen	to wish	تمنى
	dictum	dictī n.	Äußerung	remark	بيان
	dictum	dictī n.	Ausspruch	saying	قول / حكمة
	fidēlis	fidēle	treu	loyal, faithful	مخلص
	imperāre	imperō	befehlen	to order	طلب
	hūc	Adv.	hierher	here (hither)	هنا (إلى هنا)
	hūc	Adv.	hierhin	to this place	لهذا المكان (إلى هنا)
	inopia	inopiae f.	Armut	poverty	فقر
	inopia	inopiae f.	Not	need	حاجة
	praedicāre	praedicō	rühmen	to praise	مجد
	praedicāre	praedicō	lobend hervorheben	to proclaim	أبرز مع مدح
	nūntiāre	nūntiō	melden	to announce	أعلن
	convenīre	conveniō, convēnī, conventum	treffen	to meet	اجتمع
	convenīre	conveniō, convēnī, conventum	(mit jdm.) zusammenkommen	to assemble, to come together	اجتمع مع (شخص ما)
	philosophus	philosophī m.	Philosoph	philosopher	فيلسوف
	tantum ... quantum		so viel ... wie	as much ... as	بقدر ما / عدد كبير ... مثل
	tantum ... quantum		so weit ... wie	as far as	بقدر ما / إلى حد / بعيد مثل
	turpis	turpe	schimpflich	shameful	مخجل
	turpis	turpe	hässlich	ugly	قبيح
	mēnsis	mēnsis m. (Gen. Pl. : mēnsium)	Monat	month	شهر
	intermittere	intermittō, intermīsī,	einschieben	to interrupt	أدخل / أوج

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	intermittere	intermittō, intermīsī,	verstreichen lassen	to let pass	يتركه يمر / يفوت / يضيع
	contrā	Präp. + Akk.	gegen	against	ضد / مقابل
	cōnscrībere	cōnscrībō, cōnscrīpsī,	anwerben	to recruit	وظف
	īgnōrāre	īgnōrō	nicht kennen	not to know	عدم المعرفة
	īgnōrāre	īgnōrō	nicht wissen	not to know	عدم المعرفة
	nōn īgnōrāre	nōn īgnōrō	sehr gut kennen	to know well	علم جيدا
	nōn īgnōrāre	nōn īgnōrō	wissen	to know	علم
	paulum	Adv.	ein wenig	(a) little	القليل
	sōl	sōlis m.	Sonne	sun	شمس
Lektion 23	Scīpiō	Scīpiōnis m.	Scipio	Scipio	سكيبيو
	Hannibal	Hannibalis m.	Hannibal	Hannibal	هانيبال
	proelium	proeliī n.	Kampf	fight	قتال
	quem?	Akk.	wen?	whom?	من؟ (في حالة النصب)
	māximus	-a, -um	der größte	the greatest	الأعظم
	imperātor	imperātōris m.	Kaiser	emperor	إمبراطور
	imperātor	imperātōris m.	Feldherr	military commander	قائد عسكري
	putāre	putō	glauben	to consider, to regard	اعتقد
	putāre	putō	meinen	to consider	قصد
	putāre	putō	jd. für etw. halten	to consider someone (+ adjective or noun)	اعتبره
	fundere	fundō, fūdī, fūsum	zerstreuen	to scatter	فرق / نثر
	fundere	fundō, fūdī, fūsum	forttreiben	to drive away	أبعد
	ille	ille m., illa f., illud n. Dem.-Pron.	jener	that one	هذا الذي
	ille	ille m., illa f., illud n. Dem.-Pron.	der dort	that one there	هذا الذي هناك
	ille	ille m., illa f., illud n. Dem.-Pron.	jener berühmte	that famous	ذلك المشهور
	causa	causae f.	Grund	reason	سبب / علة / دافع
	causa	causae f.	Ursache	cause	سبب / علة
	gēns	gentis f. (Gen. Pl.: gentium)	Volksstamm	tribe	قبيلة
	praetereā	Adv.	außerdem	besides, in addition	بالإضافة إلى
	duō	duō (m.), duae (f.), duō (n.)	zwei	two	اثنان
	neque	Konjunktion	und nicht	and not	و لا / وليس
	neque	Konjunktion	aber nicht	but not	لكن لا
	neque	Konjunktion	auch nicht	neither	لا هذا ولا ذلك / لا ... ولا
	tertius	-a, -um	der dritte	the third	الثالث
	vincere	vincō, vīcī, victum	siegen	to win	فاز
	vincere	vincō, vīcī, victum	besiegen	to defeat	تغلب على
	cōpia	cōpiārum f. Pl.	Truppen	troups	الجند / الجيش / فرق الجيش
	nōmināre	nōminō	jd. etwas nennen	to name	ذكر شخصا بشيء
	ō(h)!		oh	O!	أوه
	ō(h)!		ach	well, ...	حسناً / ...
	scīlicet	Adv.	selbstverständlich	of course	بالتأكيد
	scīlicet	Adv.	natürlich	naturally	بطبيعة الحال

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	laetitia	laetitiae f.	Freude	joy	فرحة / بهجة
	intellegere	intellegō, intellēxī, intellēctum	bemerken	to notice	لاحظ
	intellegere	intellegō, intellēxī, intellēctum	einsehen	to realise	فهم
	intellegere	intellegō, intellēxī, intellēctum	verstehen	to understand	فهم
	quoque (nachgestellt)	Adv.	auch	also, too	أيضا
	ēgregius	-a, -um	herausragend	eminent	بارز
	ēgregius	-a, -um	ausgezeichnet	excellent	ممتاز
Lektion 24	Archimēdēs	Archimēdis m.	Archimedes	Archimedes	أرشميدس
	ars	artis f. (Gen. Pl. : artium)	Geschicklichkeit	skill	مهارة
	ars	artis f. (Gen. Pl. : artium)	Kunst	art	فن
	mathēmaticus	-a, -um	mathematisch	mathematical	رياضي / متعلق بالرياضيات
	mathēmaticus	-a, -um	Mathematik-	mathematics ...	الرياضيات ...
	īnstrūmentum	īnstrūmentī n.	Gerät	device	جهاز / آلة
	īnstrūmentum	īnstrūmentī n.	Werkzeug	tool	أداة
	ūtilis	ūtile	nützlich	useful	مفيد
	efficere	efficiō, effēcī, effectum	herstellen	to make	صنع
	efficere	efficiō, effēcī, effectum	bauen	to build	بني
	māchina	māchinae f.	Maschine	machine	آلة / ماكينة
	adeō	Adv.	so sehr	so much	هذا القدر / جما / كثيراً
	ut	Konjunktion + Konj.	(so) dass	that	أن
	ut	Konjunktion + Konj.	damit	so that	حتى
	ut	Konjunktion + Konj.	(um ...) zu	(in order) to	لكي / كي
	moenia	moenium n. Pl.	Stadtmauer	city wall	أسوار المدينة
	pendēre	pendeō, pependī, –	hängen	to hang	تعلق
	pendēre	pendeō, pependī, –	herabhängen	to hang down from	تدلى من
	victōria	victōriae f.	Sieg	victory	فوز / نصر
	undique	Adv.	von allen Seiten	from all sides	من كل الجهات
	undique	Adv.	von überall (her)	from every direction	من كل مكان
	cōgere	cōgō, coēgī, coāctum + Akk.	jd. zwingen, etw. zu tun	to force someone to to something	أجبر شخصاً على فعل شيء
	cōgere	cōgō, coēgī, coāctum + Akk.	zusammenbringen	to bring together	جمع بينهم
	cōgere	cōgō, coēgī, coāctum + Akk.	versammeln	to assemble	عقد
	expūgnāre	expūgnō	erobern	to conquer, to capture	فهر
	praeesse	praesum, praefuī, – + Dat.	befehligen	to command	قاد
	praeesse	praesum, praefuī, – + Dat.	den Oberbefehl haben über	to be in supreme command of	له القيادة والإمارة على
	pōstulāre	pōstulō	fordern	to demand	طلب
	nē	Konjunktion + Konj.	dass nicht	that ... not	ذلك ... لا
	nē	Konjunktion + Konj.	damit nicht	so that ... not	بحيث لا ...
	mandāre	mandō	übergeben	to entrust, to hand over	عهد إلى / سلم
	mandāre	mandō	auftragen	to instruct	اعطى شخصاً مهمة
	mandāre	mandō	befehlen	to order	طلب
	fōrma	fōrmae f.	Form	form	شكل

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	geometricus	-a, -um	geometrisch	geometric	هندسي
	animadvertere	animadvertō, andimadvertī,	merken	to notice	راقب
	animadvertere	animadvertō, andimadvertī,	bemerkten	to notice	لاحظ
	turbāre	turbō	stören	to disturb	أزعج
	turbāre	turbō	in Unordnung bringen	to mess up	عبث
	tantus	-a, -um	so groß	so great	شديد الضخامة / شديد الكبر
	tantus	-a, -um	so viel	so much	هذا القدر / جما / كثيراً
	monumentum	monumentī n.	Denkmal	monument	نصب تذكاري
	monumentum	monumentī n.	Grabmal	tomb	نصب مدفن / قبر
	ōrnāre	ōrnō	ausrüsten	to equip	جهز
	ōrnāre	ōrnō	schmücken	to decorate	زين
	posterī	posterōrum m. Pl.	Nachkommen	descendants	أحفاد
	posterī	posterōrum m. Pl.	Nachwelt	posterity	الأجيال القادمة
Lektion 25	prīnceps	prīncipis m.	Fürst	chief	أمير
	cīvitās	cīvitātis f. (Gen. Pl. : Gen.)	Bürgerschaft	citizenship	المواطنين
	cīvitās	cīvitātis f. (Gen. Pl. : Gen.)	Staat	state	دولة / ولاية
	cīvitās	cīvitātis f. (Gen. Pl. : Gen.)	Bürgerrecht	citizenship rights	حق المواطنة
	dare	dō, dedī, datum	geben	to give	أعطى / منح
	annus	annī m.	Jahr	year	عام / سنة
	exercitus	exercitūs m.	Heer	army	جيش
	persuādēre	persuādeō, persuāsī, persuāsūm + Dat. +	überreden	to persuade	أقنع
	crēdere	crēdō, crēdidī, crēditum	vertrauen	to trust	وثق
	crēdere	crēdō, crēdidī, crēditum	Glauben schenken	to believe	اعتقد
	placidus	-a, -um	friedfertig	peaceful	مسالم / سلمي / هادئ
	placidus	-a, -um	ruhig	calm	هادئ
	cupidus	-a, -um + Gen.	begierig (nach etwas)	eager for sth	رغبة في شيء / راغب
	cum	Konjunktion + Konj.	als	when	عندما / لما
	cum	Konjunktion + Konj.	nachdem	after	بعد / بعد أن
	cum	Konjunktion + Konj.	weil	since	لأن
	cum	Konjunktion + Konj.	obwohl	although	على رغم
	legiō	legiōnis f.	Legion (Heeresinheit, ca. 4000 – 6000 Mann)	legion (unit of the Roman army, ca. 4000 – 6000 men)	فيلق (فرقة من الجيش مكونة من 4000- 6000 فرد)
	iter	itineris n.	Weg	way	طريق
	iter	itineris n.	Fahrt	journey	رحلة / سفر
	iter	itineris n.	Marsch	march	مارش / سير
	impellere	impellō, impulī, impulsum	veranlassen	to instigate	حرض على
	impetus	impetūs m.	Angriff	attack	هجوم
	locus	locī m.	Ort	location	موقع / مكان
	locus	locī m.	Platz	place	مكان / ميدان
	silva	silvae f.	Wald	forest	غاية
	occultāre	occultō	verbergen	to hide	أخفى
	īnsidiae	īnsidiārum f. Pl.	Hinterhalt	ambush	كمين

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	ēventus	ēventūs m.	Ausgang	outcome	مخرج / نتيجة / عاقبة
	manus	manūs f.	Hand	hand	يد
	cōspectus	cōspectūs m.	Anblick	sight	مشهد / نظر / رؤية
	cōspectus	cōspectūs m.	Blickfeld	field of view	مجال الرؤية
	petere	petō, petīvī, petītum	angreifen	to attack	هاجم
	petere	petō, petīvī, petītum	aufsuchen	to make for	يزور / يدعو
	petere	petō, petīvī, petītum	fordern	to demand	طلب
	tumultus	tumultūs m.	Tumult	tumult	شغب / جلبة / صخب
	tumultus	tumultūs m.	Aufruhr	riot	شغب
	tumultus	tumultūs m.	Kriegslärm	uproar	صخب المعركة
	metus	metūs m.	Furcht	fear	خوف
	quattuor		vier	four	أربعة
	fortis	forte	mutig	courageous	شجاع
	fortis	forte	tapfer	brave	شجاع / مقدم / جسور
	terribilis	terribile	schrecklich	terrible	رهيب
	trēs	trēs (m.), trēs (f.), tria (n.)	drei	three	ثلاثة
	dēlere	dēleō, dēlēvī, dēlētum	zerstören	to destroy	هدم
	servitūs	servitūtis f.	Knechtschaft	servitude	رق / عبودية
	servitūs	servitūtis f.	Sklaverei	slavery	عبودية
	abdūcere	abdūcō, abdūxī, abductum	abführen	to take away	القي القبض على
	abdūcere	abdūcō, abdūxī, abductum	wegführen	to lead away	أبعد
	cadere	cadō, cecidī, –	fallen	to fall	سقط
	clādēs	clādis f. (Gen. Pl. clādium)	Niederlage	defeat	هزيمة
	caelum	caelī n.	Himmel	sky	سما
	tendere	tendō, tetendī, tentum	(aus)strecken	to extend	مدد
	tendere	tendō, tetendī, tentum	spannen	to stretch (out)	امتد
Lektion 26	theātrum	theātrī n.	Theater	theatre	مسرح
	cūrāre	cūrō + ut	sich kümmern	to take care	اعتنى / اهتم
	cūrāre	cūrō + ut	dafür sorgen, dass	to make sure that	تأكد من
	lūdus	lūdī m.	Spiel	game	لعبة / ألعاب
	lūdus	lūdī m.	Schauspiel	theatre play	مسرحية
	vīvus	-a, -um	lebendig	living	نشيط / منعش / حيوي
	vīvus	-a, -um	lebend	alive	على قيد الحياة / حي
	ēdere	ēdō, ēdidī, ēditum	veranstalten	to put on (an event)	نظم
	ēdere	ēdō, ēdidī, ēditum	herausgeben	to publish	نشر
	incipere	incipiō, coepī, inceptum	anfangen	to start	بدأ
	incipere	incipiō, coepī, inceptum	beginnen	to begin	بدأ
	sīdus	sīderis n.	Stern(bild)	star, constellation	نجم / كوكبة / أبراج
	cottidiē	Adv.	täglich	daily	يومي
	hospes	hospitis m.	Gast	guest	ضيف
	hospes	hospitis m.	Fremder	stranger	غريب

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	quīdam	quaedam, quoddam (Akk. Sg. m. / f. :	ein bestimmter	a specific	(...) محدد
	quīdam	quaedam, quoddam (Akk. Sg. m. / f. :	ein gewisser	a certain	(...) معين
	quīdam	quaedam, quoddam (Akk. Sg. m. / f. :	einige	some	العديد من / البعض من
	quīdam	quaedam, quoddam (Akk. Sg. m. / f. :	manche	some	بعض
	frōns	frontis f.	Vorderseite	front	جبهة
	frōns	frontis f.	Stirn	forehead	جبين
	figūra	figūrae f.	Gestalt	figure	شكل / نموذج
	figūra	figūrae f.	Figur	figure	شكل / نموذج
	summus	-a, -um	der oberste	the uppermost	الأعلى / الأعلى
	summus	-a, -um	der höchste	the highest	الأعلى / الأعلى
	summus	-a, -um	oben (auf)	topmost	فوق (على)
	īgnārus	-a, -um	unkundig	unaware	غير كفاء
	īgnārus	-a, -um	unwissend	ignorant	جاهل
	sīgnificāre	sīgnificō	anzeigen	to indicate	أشار إلى
	sīgnificāre	sīgnificō	auf etwas hindeuten	to suggest	دلّ على
	observāre	observō	beobachten	to observe	راغب
	ōmen	ōminis n.	Vorzeichen	omen	قال
	aedificāre	aedificō	bauen	to build	بنى
	medius	-a, -um	der mittlere	the middle	الوسط
	medius	-a, -um	mitten (in)	in the middle of	في منتصف
	auctor	auctōris m.	Veranlasser	instigator	مُدير / مسبب
	auctor	auctōris m.	Urheber	author	مؤلف
	caput	capitis n.	Kopf	head	رئيس / رأس / كبير
	adicere	adiciō, adiciē, adiectum	hinzusetzen	to add	زاد
	adicere	adiciō, adiciē, adiectum	hinzufügen	to add (to)	أضاف إلى
	tālis	tāle	so beschaffen	of such a kind	من هذا النوع
	tālis	tāle	solch ein	such	مثل هذا
	solēre	soleō	gewohnt sein	to be accustomed to	تعود على
	solēre	soleō	pflügen	to tend	اهتمّ ب
	solēre	soleō	gewöhnlich etw. tun	to be used to sth	تعود على فعل شيء
	quotiēns	Konjunktion	wie oft	how often	كم مرة
	quotiēns	Konjunktion	sooft	as often as	كلما / بحسب / كثيرا / غالبا
	vērus	-a, -um	wahr	true	صحيح / حقيقي
	persuādēre	persuādeō, persuāsī, persuāsūm + Dat. +	überreden	to persuade	اقنع
	persuādēre	persuādeō, persuāsī, persuāsūm + Dat. +	überzeugen	to convince	اقنع
	mihī persuāsūm est		Ich bin überzeugt	I am convinced	أنا مقتنع
	causa	causae f.	Grund	reason	سبب / علة / دافع
	causa	causae f.	Ursache	cause	سبب / علة
	meā causā		meinetwegen	on my account	بسببي / من أجلي
	ēligere	ēligō, ēligē, ēlectum	auswählen	to choose, to elect	اختار
	prīnceps	prīncipis m.	Fürst	first man, leader	أمير

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	p̄nc̄eps	p̄nc̄ipis m.	der Erste (an Macht und Einfluss)	the first (regarding power and influence)	الأول (من حيث السلطة والنفوذ)
	succēdere	succēdō, successī, successum	an die Stelle treten	to take the place of	حل محل
	succēdere	succēdō, successī, successum	nachfolgen	to succeed	خلف
Lektion 27	pāx	pācis f.	Frieden	peace	سلام
	statuere	statuō, statuī, statūtum	beschließen	to decide	قرر
	statuere	statuō, statuī, statūtum	festsetzen	to set	حدد
	celebrāre	celebrō	feiern	to celebrate	احتفل
	celebrāre	celebrō	rühmen	to worship	مجد
	Maecēnās	Maecēnātis m.	Maecenas	Maecenas	ماسيناس
	Horātius	Horātīi m.	Horaz	Horace	هوراس
	poēta	poētae m.	Dichter	poet	شاعر
	per	Präp. + Akk.	(örtl.) über	via	عبر / بواسطة (مكان)
	per	Präp. + Akk.	durch	through	عبر / من خلال
	per	Präp. + Akk.	(zeitl.) durch	(temporal) through	أثناء / خلال
	per	Präp. + Akk.	hindurch	through to	عبر / من خلال
	per	Präp. + Akk.	während	during	أثناء / خلال
	per	Präp. + Akk.	in	in	في
	saeculum	saeculī n.	Zeitalter	age	عمر / سن / عصر
	saeculum	saeculī n.	Jahrhundert	century	قرن
	finis	finis m.	Ende	end	نهاية
	finis	finis m.	Ziel	goal	هدف
	finis	finis m.	Grenze	limit, border	حد
	finis	finis m.	Gebiet	area	منطقة
	finēs	finium m. Pl.	Enden	ends	نهايات
	finēs	finium m. Pl.	Ziele	goals	أهداف
	finēs	finium m. Pl.	Grenzen	limits, borders	حدود
	finēs	finium m. Pl.	Gebiet	area	مناطق
	imperium	imperīi n.	Befehl	order, command	طلب / أمر
	imperium	imperīi n.	Herrschaft	reign	ملك / سلطة / حكم
	imperium	imperīi n.	Herrschaftsgebiet	realm	مملكة / مناطق النفوذ
	imperium	imperīi n.	(römisches) Reich	(Roman) empire	الإمبراطورية (الرومانية)
	augēre	augeō, auxī, auctum	vergrößern	to enlarge	كبر / وسع
	augēre	augeō, auxī, auctum	vermehrten	to increase	زاد
	compōnere	compōnō, composuī,	zusammensetzen	to compose	ألف
	compōnere	compōnō, composuī,	ordnen	to order	رتب / نظم
	compōnere	compōnō, composuī,	verfassen	to compose	كتب
	negāre	negō	ablehnen	to reject	رفض
	negāre	negō	verneinen	to negate	نفي
	negāre	negō	sich weigern	to refuse	رفض
	ultimus	-a, -um	der letzte	the last	الأخير
	ultimus	-a, -um	der äußerste	the furthest	الأقصى / الأبعد / النهائي

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	quantus?	-a, -um	wie groß?	how big?	ما حجمه؟
	quantus?	-a, -um	wie viel?	how much?	كم قدره؟ / كم؟ / بكم؟
	potestās	potestātis f.	Macht	power	قدرة / سلطة / سلطان
	potestās	potestātis f.	Gewalt	force	قدرة / عنف / سطوة
	potestās	potestātis f.	Möglichkeit	ability	إمكانية / احتمالية
	flōrere	flōrēō, flōrūī, -	blühen	to flourish	ازدهر
	efficere	efficiō, effēcī, effectum	herstellen	to make	صنع
	efficere	efficiō, effēcī, effectum	bauen	to build	بنى
	efficere	efficiō, effēcī, effectum	bewirken	to cause	سبب
	umquam	Adv.	jemals	ever	أبداً
	frūctus	frūctūs m.	Frucht	fruit	ثمرة
	frūmentum	frūmentī n.	Getreide	grain	حبوب
	petere	petō, petīvī, petītum	angreifen	to attack	هاجم
	petere	petō, petīvī, petītum	aufsuchen	to visit, to go to	زار
	petere	petō, petīvī, petītum	fordern	to demand	طلب
	petere	petō, petīvī, petītum	(er)bitten	to ask for	تضرع
	domus	domūs f. (Gen. Pl. : domōrum, Akk.	Haus	house	منزل / بيت
	permittere	permittō, permīsī, permissum	erlauben	to allow	يسمح / يتيح
	permittere	permittō, permīsī, permissum	gestatten	to permit	سمح
	orbis	orbis m.	Kreis	circle	دائرة
	orbis terrārum		Erdkreis	globe	كرة أرضية
	orbis terrārum		Erde	earth	أرض
	perpetuus	-a, -um	ununterbrochen	perpetual	متواصل / بلا انقطاع
	perpetuus	-a, -um	fortlaufend	continuous	مستمر
	perpetuus	-a, -um	beständig	permanent	دائم
Lektion 28	Nerō	Nerōnis m.	Nero	Nero	نيرو
	certāmen	certāminis n.	Wettkampf	competition	منافسة
	certāmen	certāminis n.	Wettstreit	contest	مسابقة / منافسة / مباراة
	iūdex	iūdicis m.	Richter	judge	قاضي / القاضي
	etiam	Konjunktion	auch	also	أيضا
	etiam	Konjunktion	sogar	even	حتى
	Apollō	Apollonis m.	Apoll	Apollo	أبولو
	praestāre	praestō, praestitī, -	sich hervortun	to be outstanding	برز
	praestāre	praestō, praestitī, -	sich auszeichnen	to excel	تفوق
	praestāre	praestō, praestitī, -	besser sein	to be better	كان أفضل
	praestāre	praestō, praestitī, -	zeigen	to show	أظهر
	praestāre	praestō, praestitī, -	erweisen	to prove	أثبت
	praestāre	praestō, praestitī, -	+ Dat.: jdn. überragen	+ dative: to outshine sb	(+حرف جر): يفوق شخصاً
	praestāre	praestō, praestitī, -	jdn. übertreffen	to surpass someone	تفوق على شخص
	meritō	Adv.	mit Recht	justly	بعدل / بحق / بأحقية / بجدارة
	meritō	Adv.	aus gutem Grund	with good reason, rightly	لسبب وجيه

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	crēdere	crēdō, crēdidī, crēditum	vertrauen	to trust	وثق ب
	crēdere	crēdō, crēdidī, crēditum	Glauben schenken	to give credence to	اعتقد / صدق
	crēdere	crēdō, crēdidī, crēditum	glauben	to believe	اعتقد / صدق
	pūblicus	-a, -um	öffentlich	public	عام / عمومي / علني
	necesse est		es ist nötig	it is necessary	من الضروري
	necesse est		man muss	one must	على المرء أن
	dēclārāre	dēclārō	jd. (öffentlich) zu etwas erklären	to (publicly) pronounce sb sth	صرح
	dēclārāre	dēclārō	ausrufen	to announce	اعلن
	rēs pūblica	reī pūblīcae f.	Staat	state	دولة / ولاية
	rēs pūblica	reī pūblīcae f.	Gemeinwesen	commonwealth	جماعة / كيان سياسي / الصالح العام
	pertinēre	pertineō, pertinui, –	sich erstrecken	to extend	اتسع
	pertinēre	pertineō, pertinui, –	sich beziehen	to relate to	يتصل ب / يتعلق ب
	diligere	diligō, dilēxī, dilectum	lieben	to love	أحب
	diligere	diligō, dilēxī, dilectum	wertschätzen	to appreciate	قدر قيمة
	nescīre	nesciō	nicht wissen	not to know	عدم المعرفة
	nescīre	nesciō	nicht kennen	not to know about	عدم المعرفة عن
	scīre	sciō	wissen	to know	علم
	scīre	sciō	kennen	to know	علم
	reprehendere	reprehendō, reprehendī,	tadeln	to reprimand	وبخ
	oppidum	oppidī n.	(Land-) Stadt	(country) town	مدينة (بلد / بلدة)
	claudere	claudō, clausī, clausum	schließen	to close	غلق
	claudere	claudō, clausī, clausum	verschließen	to lock	قفل
	cōnsulere	cōnsulō, cōnsulūī, cōnsultum	sich beraten	to consult	استشار
	cōnsulere	cōnsulō, cōnsulūī, cōnsultum	beratschlagen	to discuss	أخذ المشورة
	quōmodo?		wie?	how?	كيف؟
	quōmodo?		auf welche Weise?	in what way?	بأي طريقة؟
	clam	Adv.	heimlich	secretly	سراً
	altus	-a, -um	1. hoch	1. high	1. عال
	altus	-a, -um	2. tief	2. deep	2. عميق
	simulāre	simulō	vortäuschen	to fake	تظاهر
	simulāre	simulō	so tun, als ob	to pretend	تصرف كأنه
	dubitāre	dubitō	zögern	to hesitate	تردد
	tamquam	Adv.	wie	just as	مثل
	tamquam	Adv.	als ob	as if	كما لو
	dēportāre	dēportō	wegtragen	to carry off	حمل
	dēportāre	dēportō	fortschaffen	to remove	أزال
	quīn etiam		ja sogar	in fact	نعم، وحتى
	quīn etiam		ja vielmehr	moreover	نعم، وليس فقط
	ēvenīre	ēveniō, ēvēnī, ēventum	sich ereignen	to happen, occur	حدث
	parere	pariō, peperī, partum	hervorbringen	to produce, to bear	أنتج / تحمل
	parere	pariō, peperī, partum	gebären	to give birth	وضع / ولد

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	concedere	concedō, concessī, concessum	erlauben	to allow	سمح
	concedere	concedō, concessī, concessum	zugestehen	to grant	اعترف
	offendere	offendō, offendī, offēsum	beleidigen	to offend	أساء إلى
Lektion 29	nimis	Adv.	zu	too	جداً
	nimis	Adv.	zu sehr	too much	مفرط
	potēns	Gen. potentis Adv. potenter	mächtig	powerful	قوي
	utinam	Adv.	wenn doch	if only	فقط لو
	utinam	Adv.	hoffentlich	hopefully	على أمل
	Bāiae	Bāiārum f. Pl.	Baiae	Baiae	بايا
	dolus	dolī m.	List	trick, deception	قائمة
	litterae	litterārum f. Pl.	Brief	letter	خطاب / رسالة
	ferre	ferō, tulī, lātum	tragen	to carry	حمل
	ferre	ferō, tulī, lātum	bringen	to bring	أحضر
	sē cōnferre	cōnferō, contulī, collātum	sich begeben	to make one's way	شق طريقه إلى
	dolēre	doleō, doluī, –	Schmerz empfinden	to ache	شعر بالألم
	dolēre	doleō, doluī, –	bedauern	to regret	ندم
	optimus	-a, -um	der beste	the best	الأفضل
	concordia	concordiae f.	Eintracht	concord	إتفاق / وفاق
	concordia	concordiae f.	Harmonie	harmony	إنسجام / وئام
	tollere	tollō, sustulī, sublātum	beseitigen	to get rid of	تخلص من
	laetus	-a, -um	fröhlich	happy	سعيد
	afferre	afferō, attulī, allātum	heranbringen	to bring	أحضر
	familiāris	familiāre	vertraut	familiar	مألوف
	prōducere	prōducō, prōdūxī, prōductum	vor(an)führen	to lead forward	قاد / قدم إلى الأمام
	prōducere	prōducō, prōdūxī, prōductum	in die Länge ziehen	to drag out	مدّ
	surgere	surgō, surrēxī, surrēctum	aufstehen	to get up	قام
	surgere	surgō, surrēxī, surrēctum	sich erheben	to rise	ارتفع
	alter	-a, -um (Gen. alterīus, Dat. alterī)	der eine	the one	الواحد
	alter	-a, -um (Gen. alterīus, Dat. alterī)	der andere	the other	الأخر
	sinus	sinūs m.	Bucht	bay	خليج
	offerre	offerō, obtulī, oblātum	anbieten	to offer	عرض / قدم
	ait	3. P. Sg.	er/sie/es sagt	he/she/it says	هو يقول / هي تقول
	ait	3. P. Sg.	er/sie/es sagte	he/she/it said	هو قال / هي قالت
	iussū	Adv.	auf Befehl	by order	بأمر / بطلب
	mēns	mentis f.	Gesinnung	ethos	نهج / روح / أخلاقيات
	mēns	mentis f.	Gedanke	thought	فكرة / خاطرة
	mēns	mentis f.	Absicht	intention	نية
	mēns	mentis f.	Sinn	sense	حس / احساس / معنى
	cursus	cursūs m.	Lauf	course	جري / ركض
	cursus	cursūs m.	Fahrt	journey	رحلة / سفر
	frangere	frangō, frēgī, frāctum	zerbrechen	to break	كسر

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	paene	Adv.	beinahe	nearly	تقريباً
	paene	Adv.	fast	almost	تقريباً
	gemitus	gemitūs m.	Seufzen	groan	تنهد
	gemitus	gemitūs m.	Stöhnen	moan	أنين
	auxilium	auxiliī n.	Hilfe	help	مساعدة
	īnferre	īnferō, intulī, illātum	hineintragen	to carry in	حمل (إلى الداخل)
Lektion 30	salūs	salūtis f.	Wohlergehen	health	رفاهية / رخاء
	salūs	salūtis f.	Gruß	greeting	تحية / سلام
	cārus	-a, -um	lieb	dear	عزيز
	cārus	-a, -um	teuer	expensive	مكلف / غال
	epistula	epistulae f.	Brief	letter	خطاب / رسالة
	hortārī	hortor	ermahnen	to exhort	حث / نصح
	hortārī	hortor	auffordern	to urge	طلب
	cōnārī	cōnor + Inf.	versuchen (etw. zu tun)	to attempt (to do something)	حاول (فعل شيء)
	oblīvīscī	oblīvīscor, oblītus sum	vergessen	to forget	نسي
	ūsque ad	Adv.	bis zu	until, up to	حتى
	studium	studiī n.	Studie	study	دراسة
	studium	studiī n.	Wissenschaft	science	علم / علوم
	studium	studiī n.	Eifer	enthusiasm	حماس
	studium	studiī n.	Beschäftigung	occupation	عمل / شغل / اشتغال
	somnus	somnī m.	Schlaf	sleep	نوم
	placēre	placeō, placuī, placitum	gefallen	to please	رضى
	placēre	placeō, placuī, placitum	Spaß machen	to be pleasing	كان ممتعاً / رضى
	mihī placet	+ Inf.	ich fasse den Beschluss	I decide to	أخذ قراراً / أقرر
	levis	leve	leicht	light	خفيف / سهل
	mōtus	mōtūs m.	Bewegung	motion	حركة
	fierī	fiō, factus sum	werden	to become	أصبح / صار
	fierī	fiō, factus sum	entstehen	to come into being	شكل / كون
	fierī	fiō, factus sum	geschehen	to happen	حدث
	fierī	fiō, factus sum	gemacht werden	to be made	صنع
	aedificium	aedificiī n.	Gebäude	building	بناء / مبنى / بناية
	ēgredī	ēgredior, ēgressus sum	hinausgehen	to go out	خرج
	domō		aus dem Haus	from/of the house	من المنزل
	domō		von zuhause	from home	من المنزل
	proficīscī	proficīscor, profectus sum	aufbrechen	to depart	انطلق
	proficīscī	proficīscor, profectus sum	sich auf den Weg machen	to set off	انطلق إلى
	nūbēs	nūbis f.	Wolke	cloud	غيمة / سحابة
	āter	ātra, ātrum	schwarz	black	أسود
	āter	ātra, ātrum	grauenvoll	gruesome	بشع / شنيع / فظيع / مروع
	dēscendere	dēscendō, dēscendī, dēscēsum	herabsteigen	to descend	نزل (من أعلى إلى أسفل)
	dēscendere	dēscendō, dēscendī, dēscēsum	herabkommen	to come down	نزل (من أعلى إلى أسفل)

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	dēscendere	dēscendō, dēscendī, dēscēsum	sich senken	to lower oneself	انخفض
	cinis	cineris m.	Asche	ash	رماد
	difficilis	difficile	schwer	hard	صعب
	difficilis	difficile	schwierig	difficult	صعب
	tuērī	tueor, tuitus sum	schützen	to protect	حرس / شاهد
	tuērī	tueor, tuitus sum	beschützen	to protect	حرس / دافع
	via	viae f.	Weg	way	طريق
	marītus	marītī f.	Ehemann	husband	زوج
	precārī	precor	bitten (um)	to ask (for)	طلب
	precārī	precor	wünschen	to wish	تمنى
	precārī	precor	beten	to pray	صلى
	morī	moriō, mortuus sum	sterben	to die	مات
	querī	queror, questus sum	klagen	to moan	اشتكى
	querī	queror, questus sum	sich beklagen	to lament	اشتكى
	tenebrae	tenebrārum f. Pl.	Finsternis	gloom	ظلمة
	tenebrae	tenebrārum f. Pl.	Dunkelheit	darkness	ظلام / عتمة
	discēdere	discēdō, discessī, discessum	auseinandergehen	to part	افترق
	discēdere	discēdō, discessī, discessum	weggehen	to go away	رحل
	discēdere	discēdō, discessī, discessum	sich entfernen	to depart	ابتعد عن
	ingredī	ingredior, ingressus sum	hineingehen	to go in	دخل
	ingredī	ingredior, ingressus sum	betreten	to enter	دخل
	prius	Adv.	früher	previously	سابقاً
	prius	Adv.	eher	earlier	في وقت سابق
	quam	Adv.	als	than	من
	valēre	valeō, valuī, –	stark sein	to be strong	كان قويا
	valēre	valeō, valuī, –	gesund sein	to be healthy	كان معافيا
Lektion 31	magistrātus	magistrātūs m.	Beamter	official	مسؤول / موظف
	magistrātus	magistrātūs m.	Magistrat	magistrate	موظف بمجلس بلدية / قاض
	Silās	Silae m.	Silas	Silas	سيلاس
	impōnere	impōnō, imposuī, impositum	auferlegen	to impose	فرض
	praecipere	praecipīō, praecēpī, praeceptum	vorschreiben	to instruct	اصدر تعليمات
	praecipere	praecipīō, praecēpī, praeceptum	befehlen	to order	طلب
	diligēns	Gen. diligentis Adv. diligenter	gründlich	thorough	بتمعق / بدقة / جيدا
	diligēns	Gen. diligentis Adv. diligenter	gewissenhaft	diligent	بإخلاص / بصدق
	diligēns	Gen. diligentis Adv. diligenter	sorgfältig	careful	بعناية / بإتقان
	cum	Konjunktion + Ind. Präs. / Perf.	(zu dem Zeitpunkt) wenn	(at the time) when	(حينئذ) عندما
	cum	Konjunktion + Ind. Präs. / Perf.	als	when	عندما / حينما / لما
	praeceptum	praeceptī n.	Vorschrift	rule	قاعدة / تعليمات
	praeceptum	praeceptī n.	Befehl	order	طلب / أمر
	interior	Nom. Sg. n. : interius Gen.	der innere	the inner	الداخلي
	interior	Nom. Sg. n. : interius Gen.	der tiefere	the inner	الاعمق

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	interior	Nom. Sg. n. : interius Gen.	tief (in)	deep (inside)	عميقا (في الداخل)
	deus	deī m.	Gott	God	إله / رب
	Deus	Deī m.	(der christliche) Gott	(the Christian) god	الله / الرب (عند المسيحيين)
	lātus	-a, -um	breit	wide	واسع
	lātus	-a, -um	weit	far	بعيد
	perterrere	perterreō, perterruī, perterritum	jdn. gewaltig erschrecken	to terrify	صدم شخصا صدمة عميقة
	salūs	salūtis f.	Wohlergehen	health	رفاهية / رخاء
	salūs	salūtis f.	Gruß	greeting	تحية / سلام
	salūs	salūtis f.	Rettung	rescue	إنقاذ
	nōlle	nōlō, nōluī, –	nicht wollen	to not want	لا يريد
	interficere	interficiō, interfēcī, interfectum	umbringen	to kill	ذبح / قتل
	interficere	interficiō, interfēcī, interfectum	töten	to kill	قتل
	dominus	dominī m.	Herr	master	سيد / سيدي
	dominus	dominī m.	Hausherr	the owner of a residence	رب البيت / المالك
	Dominus	Dominī m.	Herr (als Anrede für den christlichen Gott)	Lord (used to address the Christian god)	الرب (تستخدم لمناجاة إله المسيحية)
	prōvidēre	prōvideō, prōvidī, prōvīsum	voraussehen	to predict	توقع
	prōvidēre	prōvideō, prōvidī, prōvīsum	vorhersehen	to foresee	تنبأ
	prōvidēre	prōvideō, prōvidī, prōvīsum	(+ Dat. :) Vorsorge treffen für	(+ dative) to make provisions for	(+ صيغة المجرور) يتخذ الاحتياطات لـ
	prōvidēre	prōvideō, prōvidī, prōvīsum	sorgen für	to look after	اعتنى بـ
	oportet	oportuit + Acl	es ist nötig, dass	it is necessary that	من الضروري أن
	oportet	oportuit + Acl	es gehört sich, dass	it is proper that	من الصحيح أن
	salvus	-a, -um	gesund	healthy	صحي
	salvus	-a, -um	wohlbehalten	well	سالم / حسن / في حالة طبية
	salvus	-a, -um	gerettet	saved, rescued	تم إنقاذه
	parātus	-a, -um	bereit	prepared	جاهز / معد
	lēsūs	Akk. lēsum m.	Jesus	Jesus	يسوع / المسيح
	domus	domūs f.	Haus	house	منزل / بيت
	domus	domūs f.	Familie	family	أسرة / عائلة
	domus	domūs f.	Hausgemeinschaft	household (community of people)	أهل البيت / العائلة
	spīritus	spīritūs m.	Geist	spirit	روح
	spīritus	spīritūs m.	Atem	breath	نفس
	spīritus	spīritūs m.	Hauch	breath	نفحة
	sānctus	-a, -um	heilig	holy, sacred	مقدس
Lektion 32	Chrīstiānus	-a, -um	christlich	Christian	مسيحي
	Chrīstiānus	Chrīstiānī m.	der Christ	the Christian	المسيحي
	genus	generis n.	Art	manner	طريقة
	genus	generis n.	Weise	way	طريقة / كيفية
	vītāre	vītō	meiden	to eschew	تجنب
	vītāre	vītō	vermeiden	to avoid	تجنب
	falsus	-a, -um	falsch	wrong	خطأ
	colere	colō, coluī, cultum	verehen	to worship	عبد / قدس

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	colere	colō, coluī, cultum	achten	to respect	احترم
	circus	circī m.	Rennbahn	racecourse	مضمار
	circus	circī m.	Zirkus	circus	سيرك
	probāre	probō	billigen	to approve	تغاضى
	locus	locī m.	Ort	location	موقع / مكان
	locus	locī m.	Platz	place	مكان / ميدان
	hōc locō		an diesem Ort	in this place	في هذا المكان
	dīcere	dīcō, dīxī, dictum	sagen	to say	قال
	dīcere	dīcō, dīxī, dictum	sprechen	to speak	تحدث
	dīcere	dīcō, dīxī, dictum	reden	to talk	تحدث
	loquī	loquor, locūtus sum	sagen	to say	قال
	loquī	loquor, locūtus sum	sprechen	to speak	تحدث
	loquī	loquor, locūtus sum	reden	to talk	تحدث
	scelus	sceleris n.	Verbrechen	crime	جريمة
	occīdere	occīdō, occīdī, occīsum	niederhauen	to knock down	صرع
	occīdere	occīdō, occīdī, occīsum	töten	to kill	قتل
	amphitheātrum	amphitheātrī n.	Amphitheater	amphitheatre	مدرج
	ruere	ruō, ruī, rutum	stürzen	to fall	رمى نفسه
	ruere	ruō, ruī, rutum	eilen	to hurry	أسرع
	minus	Adv.	weniger	less	أقل
	adulēscēns	adulēscētis m./f.	junger Mann	young man	شاب
	adulēscēns	adulēscētis m./f.	junge Frau	young woman	شابة
	dēnique	Adv.	zuletzt	lastly	أخيراً
	dēnique	Adv.	endlich	finally	أخيراً
	carēre	careō, caruī, – + Abl.	nicht haben	to lack	ليس لديه
	carēre	careō, caruī, – + Abl.	frei sein von	to be free from	خال من
	furor	furōris m.	Wut	anger	غضب
	furor	furōris m.	Raserei	rage	غضب عاصف
	corripere	corripō, corripuī, correptum	befallen	to take hold of	اصاب / حاق ب
	corripere	corripō, corripuī, correptum	in Beschlag nehmen	to seize	مسك
	orīrī	orior, ortus sum	sich erheben	to rise	رفع
	orīrī	orior, ortus sum	entstehen	to form	شكل / كون
	quārē	Adv.	weshalb	why	لذلك / لهذا السبب
	quārē	Adv.	deshalb	therefore	ولذلك
	fidēs	fideī f.	Schutz	protection	حماية
	fidēs	fideī f.	Beistand	support	دعم / مساندة
	fidēs	fideī f.	Zuverlässigkeit	reliability	موثوقية / ثقة / اعتماد على
	fidēs	fideī f.	Treue	loyalty	ولاء / إخلاص
	fidēs	fideī f.	Glaube	belief	إيمان / اعتقاد
Lektion 33	lingua	linguae f.	Sprache	language	لغة
	Latīnus	-a, -um	lateinisch	Latin	لاتيني

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	colere	colō, coluī, cultum	verehren	to honour	كرم / احترم
	colere	colō, coluī, cultum	achten	to respect	كرم / احترم
	colere	colō, coluī, cultum	pflegen	to care for	اهتمّ بـ
	colere	colō, coluī, cultum	betreiben	to operate	شغل
	Karolus Māgnus	Karolī Māgnī m.	Karl der Große	Charlemagne	شارلمان
	ut	Konjunktion + Konj.	(so) dass	(so) that	حتى
	ut	Konjunktion + Konj.	damit	in order that	لكي / كي
	ut	Konjunktion + Konj.	(um ...) zu	(in order) to	لكي / كي
	ut	Konjunktion + Ind.	wie	as, just as	مثل / كـ
	administrāre	administrō	verwalten	to administer	أدار / حكم
	commūnis	commūne	gemeinsam	common	سويا / معا
	accēdere	accēdō, accessī, accessum	sich nähern	to approach	اقترب
	accēdere	accēdō, accessī, accessum	herbei-kommen	to come near	اقترب
	(hūc) accēdit, ut		es kommt hinzu, dass	moreover, ...	علاوة على ذلك ...
	māximē	Adv.	am meisten	most	الأكثر
	māximē	Adv.	ganz besonders	especially	خصوصاً / خاصة
	cor	cordis n.	Herz	heart	قلب
	tam	Adv.	so	so	إذا / وبالتالي / هكذا
	tam ... quam		so ... wie	as much as	(...) مثل
	patrius	-a, -um	väterlich	fatherly	أبوي
	patrius	-a, -um	heimatlich	native	محلي / وطني / قومي
	ūtī	ūtōr, ūsus sum + Abl.	benutzen	to use	تأكد من / تحقق
	ūtī	ūtōr, ūsus sum + Abl.	verwenden	to employ	وظف
	ūtī	ūtōr, ūsus sum + Abl.	gebrauchen	to use	استخدم
	tabula	tabulae f.	Wachstäfelchen	wax tablet	قرص شمع
	litterae	litterārum f. Pl.	Brief	letter	خطاب / رسالة
	littera	litterae f.	Buchstabe	letter (of the alphabet)	حرف (من الأبجدية)
	exercēre	exerceō, exercuī, exercitum	üben	to practise	مارس
	exercēre	exerceō, exercuī, exercitum	ausüben	to practise, to execute	مارس / نفذ
	vacuus	-a, -um	leer	empty	فارغ
	vacuus	-a, -um	frei	free	حر
	ōrātor	ōrātōris m.	Redner	orator	خطيب
	ars	artis f.	Geschicklichkeit	skillfulness	مهارة
	ars	artis f.	Kunst	art	فن
	ars	artis f.	Wissenschaft	science	علم / علوم
	cēnsēre	cēnseō, cēnsuī, cēnsūm	denken	to think	فكر
	cēnsēre	cēnseō, cēnsuī, cēnsūm	meinen	to mean	قصد
	prīmō	Adv.	zuerst	firstly	أولاً
	prīmō	Adv.	zunächst	initially	في البداية
	īnstituere	īnstituō, īnstituī, īnstitutum	veranstalten	to put on	عهد / جهز
	īnstituere	īnstituō, īnstituī, īnstitutum	aus-richten	to organise	نظم

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	īnstituere	īnstituō, īnstituī, īnstitutum	errichten	to set up	أقام
	īnstituere	īnstituō, īnstituī, īnstitutum	unterrichten	to teach	علم
	īnstituere	īnstituō, īnstituī, īnstitutum	unter-weisen	to instruct	أرشد / أصدر تعليمات
	sē gerere		sich verhalten	to behave	تصرف
	gerere	gerō, gessī, gestum	tragen	to carry	حمل
	gerere	gerō, gessī, gestum	ausführen	to carry out	أدى / نفذ
	domesticus	-a, -um	häuslich	domestic	منزلي
	domesticus	-a, -um	zum Haushalt gehörig	of the house	ينتمي إلى الأسرة
	adipiscī	adipiscor, adeptus sum	erreichen	to achieve	حصل
	pūrus	-a, -um	rein	pure	نقي
	pūrus	-a, -um	sauber	clean	نظيف
Lektion 34	expōnere	expōnō, exposuī, expositum	1. aussetzen	1. to expose	تخلى عن
	expōnere	expōnō, exposuī, expositum	2. darstellen	2. to display	شرح / عرض
	expōnere	expōnō, exposuī, expositum	beschreiben	to explain	وصف
	Turca	Turcae m.	der Türke	the Turk	التركي
	accipere	accipiō, accēpī, acceptum	annehmen	to accept	قبل
	accipere	accipiō, accēpī, acceptum	aufnehmen	to take in	أخذ على عاتقه
	accipere	accipiō, accēpī, acceptum	vernehmen	to hear	سمع
	accipere	accipiō, accēpī, acceptum	erfahren	to experience	اختبر
	vīs	– f. (Akk. Sg. : vim, Abl. Sg. : vī)	Kraft	strength	قوة / شدة
	vīs	– f. (Akk. Sg. : vim, Abl. Sg. : vī)	Gewalt	force	قدرة / عنف / سطوة
	vīrēs	vīrium f. Pl.	Macht	might	قدرة / سلطة / سلطان
	vīrēs	vīrium f. Pl.	Streitkräfte	(armed) forces	القوات (المسلحة)
	comparāre	comparō	vergleichen	to compare	قارن
	exter(us)	-a, -um (Pos./Komp.):	der äußere (Pos./Komp.)	outer (positive, comparative)	الخارجي (محدد المواقع / صيغة التفضيل (المقارنة))
	exter(us)	-a, -um (Pos./Komp.):	der äußerste (Superl.)	most extreme (superlative)	الحد الأقصى (أفعل تفضيل)
	patī	patior, passus sum	erdulden	to suffer	عانى
	patī	patior, passus sum	ertragen	to bear	تحمل
	ācer	ācris, ācre	energisch	fierce	عنيف / شرس / بحيوية
	ācer	ācris, ācre	hitzig	heated	مسخن / حار / حاد / ساخن / متوتر
	ācer	ācris, ācre	scharf	sharp	حاد
	ācer	ācris, ācre	heftig	vehement	عنيف / متقد / حماسي
	sitis	sitis f. (Akk. Sg.: sitim, Abl. Sg.: sitī)	Durst	thirst	عطش
	frangere	frangō, frēgī, frāctum	zerbrechen	to break	كسر
	frangere	frangō, frēgī, frāctum	schwächen	to weaken	ضعف
	frangere	frangō, frēgī, frāctum	entkräften	to weaken	تصرف كانه
	aliter	Adv.	sonst	otherwise	وإلا
	aliter	Adv.	andernfalls	otherwise	وإلا
	aliter	Adv.	anders	differently	مختلف
	aliter	Adv.	auf andere Art	in another way	بطريقة أخرى / بطريقة مختلفة
	rarus	-a, -um	selten	rare	نادر

Lektion	Latein		Deutsch	Englisch	Arabisch
	extinguere	extinguō, extīnxī, extīnctum	löschen	to delete	حذف
	extinguere	extinguō, extīnxī, extīnctum	auslöschen	to extinguish	طفي
	fieri	fiō, factus sum	werden	to become	اصبح
	fieri	fiō, factus sum	entstehen	to form	شكل / كون
	fieri	fiō, factus sum	geschehen	to happen	حدث
	fieri	fiō, factus sum	gemacht werden	to be made	صنع
	ita fit, ut		so geschieht es, dass	so it happens, that	وئصادف أن
	disciplīna	disciplīnae f.	Ordnung	order	نظام / ترتيب / تنظيم
	disciplīna	disciplīnae f.	Disziplin	discipline	تأديب / إنضباط / نظام
	Gianizārī	Gianizārōrum m. Pl.	Janitscharen	Janissaries	إنكشارية
	mīlle	Pl.: mīlia	tausend	thousand	ألف
	māgnus	-a, -um māgnus, māior, māximus	groß	great	كبير / عظيم
	bonus	-a, -um bonus, melior, optimus	gut	good	جيد
	malus	-a, -um malus, pēior, pessimus	schlecht	bad	سيء
	malus	-a, -um malus, pēior, pessimus	böse	evil	شر
	cōnsuētūdō	cōnsuētūdinis f.	Gewohnheit	habit	عادة
	parvus	-a, -um parvus, minor, minimus	klein	small	صغير
	multī	-ae, -a multī, plūrēs, plūrimī	viele	many	كثير